

الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ

جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے

ماں کی پیڑھیاں



تالیف

محافظ القاری مولانا غلام حسن قادری

مفتی دارالعلوم حزب مخالف

لاہور
اکبر پبلشرز

Click For More Books

الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ

جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے



تالیف

الحافظ القاری مولانا غلام حسن قادری

مفتی دارالعلوم حزب الاحناف لاہور

اکبر پبلشرز

بجیو نمبر ۴۴ اوپن مارلاہور

Ph:042-7352022-Mob:0300-4477371

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں﴾

نام کتاب	ماں تسکین جاں
مصنف	مفتی غلام حسن قادری (حزب الاحناف لاہور)
پروف ریڈنگ	الحاج قاری محمد اصغر علی نورانی جامعہ امیر حمزہ لاہور
نظر ثانی	استاذ العلماء حضرت مولانا حافظ عبدالغفور گولڑوی
		استاذ الحفاظ حضرت قاری ریاض احمد فاروقی
حسب فرمائش	میاں صادق محبوب - میاں مبارک علی
		محبوب ایسوسی ایٹس لاہور دلہنا اسٹیٹ ایجنسی لاہور
		حضرت مولانا عبدالرشید صدیقی عطاری
صفحات	128
تعداد	1100
کمپوزنگ	فرخ علی
ناشر	اکبر بک سیلز لاہور
قیمت	130 روپے

اکبر بک سیلز لاہور

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

کلماتِ شکر

اس کتاب کی تیاری میں جن احباب نے مجھے مفید مشوروں سے نوازا یا کسی بھی طور پر اپنی محبت کا اظہار فرمایا ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں اور بارگاہِ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ ان میں سے جن جن کے والدین (یا دونوں میں سے کوئی ایک) حیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ صحت و تندرستی کے ساتھ دراز فرمائے اور ان کو عمرِ خضر سے نوازے اور اگر فوت ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے محبوب علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین علیہ وآلہ واصحابہ افضل الصلوٰۃ واکمل التسلیم!

ان میں سے چند حضرات کے اسمائے گرامی یہ ہیں: ۱۔ جگر گوشہ مفتی اعظم پاکستان گل نایاب از گلستان ابوالبرکات صاحبزادہ سید مسعود احمد رضوی مدظلہ ۲۔ جگر گوشہ شارح بخاری صاحبزادہ سید مصطفیٰ اشرف رضوی مدظلہ صاحب ۳۔ حضرت مولانا صاحبزادہ قاری محمد اکرم فیضی سابق امام جامع مسجد حضرت داتا گنج بخش علیہ الرحمۃ ۴۔ صاحبزادہ سید مرتضیٰ اشرف رضوی مدظلہ حزب الاحناف لاہور ۵۔ حضرت قاری محمد اکرم فیضی ناظم و مہتمم مدرسہ فیضیہ حفظ القرآن کالج بلاک علامہ اقبال ٹاؤن لاہور ۶۔ علامہ صاحبزادہ سید نثار اشرف رضوی مدظلہ ۷۔ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری غلام مرتضیٰ نقشبندی مدرس جامعہ نعیمیہ لاہور ۸۔ زینت القراء استاذ الحفظ قاری سیف اللہ سیفی ناظم و مہتمم مدرسہ سلطانیہ حق باہو ۹۔ علامہ محمد عابد عمران انجم مدنی فاضل بھیرہ شریف ۱۰۔ حضرت علامہ مولانا حافظ اشفاق المصطفیٰ صاحب لنڈا بازار لاہور جناب قاری محمد ریاض فریدی رضوی جناب ساجد علی ساجد صاحب جناب مولانا تصور حسین رضوی صاحب جناب قاری محمد اختر سیالوی

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

صاحب جناب قاری خدا بخش بصری صاحب سید شبیر حسین رضوی فیصل آباد قاری
محمد اسلم ساندہ لاہور پیر حافظ محمد عثمان نوشاہی صاحب گڑھی شاہولاہور حافظ محمد عمران
شاہ کر حافظ فرحان احمد قاری محمد اسماعیل حسنی چوہان روڈ لاہور پیر محمد نواز قادری
حافظ قاری محمد عرفان حافظ محمد آصف قاری محمد اقبال سیالوی قاری محمد طفیل نوری
قاری عمر حیات مدرسین حزب الاحناف لاہور عبدالرحمن رضا قادری حافظ عبدالرحمن
مولانا عبداللطیف حافظ وحید گل ہزاروی حافظ محمد امین رضا حافظ محمد آصف ضیائی
قاری شاہ نواز (طلبائے حزب الاحناف لاہور) رانا ساجد محمود قادری چوہدری احمد
حسن صاحب حافظ میاں محمد عارف صاحب افتخار علی قریشی صاحب حافظ
عبدالقدوس صاحب حافظ عبدالرؤف صاحب ملک عبدالرحیم صاحب

شکر گزار: غلام حسن قادری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
الْاٰمِنِ

فہرست

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۴۶	ماں کی نافرمانی حرام ہے	۷	اے خدا تجھ سے ہماری ہے دعا
۴۸	ماں کی دعا کا اثر	۸	احمد مجتبیٰ پر درود و سلام
	اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں اپنے موسیٰ	۹	انتساب
۴۹	کا ساتھ ہی بنا دے	۱۰	نورانی کرنیں ایمانی جذبے روحانی جلوے
۵۱	حضرت جبرئیل کی کہانی محبوب خدا کی زبانی	۱۳	ماں جیسی ہستی دنیا میں کہاں؟
	ماں کی خدمت کرنے میں بخل کرنے	۱۸	حقوق و فرائض کی تقسیم اور ماں
۵۴	والے کو سزا	۲۶	عظمت ماں اور حکم قرآن
	ماں کی نافرمانی میں کعبہ کو جانے والے	۲۹	خدمت ماں اور فرمان سید مرسلان ﷺ
۵۵	بزرگ کا حال	۳۱	ماں کی خدمت کا صلہ
	ماں کو گدھی کہہ کر پکارنے والا خود گدھا	۳۱	ماں کے قدموں کا بوسہ
۵۸	بن گیا	۳۳	ماں کی خدمت کرنے سے بڑا گناہ معاف
۵۹	زبان پہ کلمہ کیوں نہیں جاری ہو رہا؟	۳۳	ماں ماں ہے اگر چہ کافرہ و مشرکہ ہو
۶۱	ماں کی ممتا	۳۳	رضاعی ماں کا احترام
۶۲	ماں نے معاف کیا تو خدا بھی راضی ہو گیا	۳۴	در روزہ کا ایک جھٹکا
۶۴	ماں کے تابعدار کی بادلوں پہ حکومت	۳۶	ماں محبت کا ضمیر ہے اور جنت کی سفیر ہے
۶۵	ماں کی نیک نیتی کا اجر	۳۷	ایک وضاحت
۶۶	بقرة قرآن اور خدمت گزار ماں	۳۹	قبر میں قرآن پاک کی تلاوت
۶۹	ماں باپ کی خوشی و غمی	۳۹	مقبول حج کا ثواب
۷۰	سید الملائکہ کی دعا پر سید الانبیاء کا آمین کہنا	۴۲	جنت کے دروازے
۷۲	تین مسافروں کی کہانی	۴۳	والدین کی نافرمانی

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
۱۱۶	”ماں“ عطیہِ رحمن	۷۵	ماں باپ کو کیسے خوش رکھا جائے؟
۱۱۷	”ماں“ سایہ یزداں		حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ماں کا واقعہ
۱۱۸	”ماں“ رحمت کا سائباں	۷۷	والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے کیا کیا جائے
۱۱۹	”ماں“ چارہ بے چارگان		والدین کا قرض ادا کیا جائے
۱۲۱	ماں دی شان	۷۹	والدین کی طرف سے صدقہ و خیرات کی جائے
۱۲۶	کتابیات	۸۱	والدین کی جائز وصیت کو پورا کیا جائے
۱۲۸	صلائے عام ہے.....		والدین کی قبر کی زیارت کی جائے
		۸۲	ماں کے بارے میں چند مشاہیر کی آراء
		۸۳	ماں کی خدمت میں نذرانہ محبت عظیم لوگوں کی عظیم مائیں
		۸۴	رسول اعظم (ﷺ) کی ماں (ﷺ)
		۸۵	حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں
		۹۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں
		۹۵	نبوت اعظم رضی اللہ عنہ کی ماں
		۹۸	امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ماں
		۱۰۱	خیر التابین حضرت اویس قرنی کی ماں
		۱۰۲	مجاہدین و شہداء کی مائیں
		۱۰۳	اولیاء و صلحاء کی مائیں
		۱۰۷	”ماں“ عظمت کا نشان
		۱۰۹	”ماں“ محبت کا جہاں
		۱۱۱	”ماں“ آرام جاں
		۱۱۳	
		۱۱۴	

اے خدا تجھ سے ہماری ہے دعا!

ہم کو کامل صاحبِ ایماں بنا
تیری رحمت ہو سدا ہم سے قریب
اتباعِ سرورِ عالم کریں
زندگی کا اس طرح طے ہو سفر
لب پہ ان کا نام پائندہ رہے
ہو ہمارے چشم و دل میں محترم
نفسِ ظالم کا نہ ہو اس میں دخل
دے مسرت کی بہار جاوداں
ٹوٹ جائے کفر و باطل کا غرور
اور عطا کر دولتِ علم و یقین
اپنے اور غیروں کے کام آتے رہیں
اپنی دنیا اور عقبی لیں سنوار
دین و دنیا کا ملے عز و وقار

اے خدا تجھ سے ہماری ہے دعا
راہِ حق پر استقامت کر نصیب
دین کے احکام پر عامل رہیں
نورِ قرآن ہو چراغِ رہگزر
دل میں یادِ مصطفیٰ زندہ رہے
نیک بندوں کا ترے نقشِ قدم
شیری مرضی کے مطابق ہو عمل
زندگی پر چھائی ہے غم کی خزاں
جوشِ اسلامی کا ہو ایسا ظہور
بخش ہم کو نعمتِ دنیا و دین
جو فرائض ہیں بجا لاتے رہیں
یوں بنیں ماں باپ کے خدمت گزار
وہ کریں طرزِ عمل ہم اختیار

جو کریں ماں باپ کی خدمت نسیم
ان سے خوش ہوتا ہے زحمن و رحیم



Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

احمد مجتبیٰ پر درود و سلام

خاتم الانبیاء پر درود و سلام
فخر کون و مکان شاہ دنیا و دیں
کائنات دو عالم کا دُرّ شہیں

خاتم الانبیاء پر درود و سلام
امتی جس کے ہیں سارے جن و بشر
جس کے آگے مسخر ہیں شمس و قمر

خاتم الانبیاء پر درود و سلام
کائنات دو عالم میں عالی وہی
ہر دکھے دل کا ہے غم گسالی وہی

خاتم الانبیاء پر درود و سلام
دشمنوں کو رہا کرنے والا وہی
رحم کی التجا کرنے والا وہی

خاتم الانبیاء پر درود و سلام
جسکی عظمت کی رتب نے قسم کھائی ہے
انبیاء کی امامت بھی فرمائی ہے

خاتم الانبیاء پر درود و سلام
نام لیتا ہے یہ صبح و شام آپ کا
اس پہ ہو جائے اب فیض عام آپ کا

احمد مجتبیٰ پر درود و سلام

خاتم الانبیاء پر درود و سلام

احمد مجتبیٰ پر درود و سلام
رحمت دو جہاں شافع المذنبین
وہ کتاب ہدایت کی شرح میں

احمد مجتبیٰ پر درود و سلام
وہ خدا کی ہدایت کا پیغام بر
دائرہ جس کی دعوت کا کل بحر و بر

احمد مجتبیٰ پر درود و سلام
بے کسوں اور پتیموں کا والی وہی
شان جس کی ہے سب سے نرالی وہی

احمد مجتبیٰ پر درود و سلام
زخم کھا کر دعا کرنے والا وہی
بے وفا سے وفا کرنے والا وہی

احمد مجتبیٰ پر درود و سلام
آخری جس پہ رب کی وحی آئی ہے
جسکو معراج خود رب نے کروائی ہے

احمد مجتبیٰ پر درود و سلام
ہے یہ عارف اک ادنیٰ غلام آپ کا
امتی ہے پراگندہ کام آپ کا

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

انتساب

اپنے آقا و مولیٰ رحمۃ للعالمین، شفیع المذنبین، سید المرسلین، امام الاوائلین
والاخرین ﷺ کی پیاری امی جان، مخدومہ امت، منبع برکات
مصدر فیوضات، مرکز حسنات، باعث تسکین قلب روح کائنات
علیہ الوف التحیات والتسلیمات

حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ عنہا

کے نام جنہوں نے انسانیت کو ایسا عظیم فرزند عطا کیا کہ جس کے جلوؤں
نے تمام جہان سے ہر قسم کی تاریکیوں کو دور فرما کر اپنے نور سے روشن و
منور فرما دیا۔

اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھ گناہ گار و سیاہ کار کی والدہ ماجدہ کو میرے
مخدوم و محترم حضرت مولانا حافظ عبدالغفور گولڑوی اور میرے محبوب دوست
محترم میاں صادق محبوب کی والدہ ماجدہ کو (جن کا حال ہی میں وصال
ہوا) خاتون جنت، سیدہ نساء العالمین، والدہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کے
مبارک قدموں میں جنت الفردوس کے اندر ابدی راحت و سکون نصیب
کرے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔

رینا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب

۔ ایں دعا ازمن واز جملہ جہاں آمین باد

غلام حسن قادری

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

نورانی کرنیں ایمانی جذبے روحانی جلوے

۔ میری قسمت سے الہی پائیں یہ رنگ قبول
پھول کچھ میں نے چنے ہیں ان کے دامن کے لیے

ماں آرام و سکونِ جاں بھی ہے اور عظمت کا نشان بھی ہے، ماں محبت کا جہاں بھی ہے اور ماں عطیہ رحماں بھی ہے۔ بحرِ محبت کی گہرائی میں ہر چیز کو سمیٹے ہوئے احساس کو ماں کہتے ہیں، اپنی مامتا میں دکھوں اور غموں کے طوفانوں کو دبا کر تبسم کی کلیاں نچھاور کرنے والی ہستی کو ماں کہتے ہیں، چاند کی چاندنی، شام کی شفق، سحر کی شبینم، دھنک کے رنگ، ستاروں کی چمک بلکہ کائنات کے سب رنگ ماں کی محبت میں چھپے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خدا کی رحمت و رافت اور محبوب خدا کی شفقت و محبت کی موسلا دھار بارش کا نام ماں ہے۔ ماں خدا کا ایسا تحفہ ہے جو کائنات میں سب سے نرالا ہے۔ خلوص نیت سے خدا اور رسول کی اطاعت کی راہوں پر ساتھ ساتھ چلنے والی ذات والا صفات ماں ہی کی ہے۔ جس کی کوکھ سے بڑے بڑے عظیم انسانوں نے جنم لیا اس کی عظمت کو احاطہ تحریر میں لانا بہت مشکل ہے۔ جو اگر ناراض ہو جائے تو خدا بھی روٹھ جائے، یہ محبت کی موجوں کا ایسا سمندر ہے جس میں بحرِ خار بھی ڈوب جائے، ماں ہی غموں کی تپتی ہوئی دھوپ میں پیار کے سائبان کا کام دیتی ہے، جو صحرا میں بادل بن جاتی ہے، سفر کی تھکن میں آغوش سکون بن جاتی ہے، غموں میں باعثِ اطمینان اور دل کی ہر دھڑکن میں قرار جاں دکھائی دیتی ہے،

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ماں کے بغیر کائنات کے رنگ بے رنگ نظر آتے ہیں۔ ماں کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں اور شفقتوں کا ہمیں جلوہ دکھایا ہے۔ جس کی عظمتوں، رفعتوں کو اکثر اس وقت یاد کیا جاتا ہے جب وہ ہم سے جدا ہو کر بہت دور چلی جاتی ہے، پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بظاہر کمزور سی ہستی اپنے اندر کتنی طاقت رکھتی تھی کہ پورے خاندان کو اپنی محبتوں اور مہربانیوں سے کس عجیب طریقے پر نظر نہ آنے والے بندھنوں سے اس نے یکجا کیا ہوا تھا کہ جس کے آنکھوں سے او جھل ہوتے ہی سب بندھ ٹوٹ جاتے ہیں اور رشتوں کے سب موتی بکھر جاتے ہیں۔

ماں کی خوشنودی دنیا میں باعث برکت اور آخرت میں باعث نجات ہے۔ جس کی آغوش انسان کی پہلی درسگاہ ہے تو اس کی پاکیزہ زندگی انسان کے لیے تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے۔ مصیبت کے وقت ماں کو یاد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے، بیماری کا علاج حکیم کے پاس ہے تو دکھ کا مداوا ماں کی دعا ہے کیونکہ ماں کی دعا پھول سے زیادہ لطیف اور تروتازہ ہوتی ہے۔ خدا جیسا آقا و داتا کوئی نہیں اور ماں جیسا رشتہ و ناطہ کوئی نہیں۔ یہ وہ کستوری ہے کہ مٹی میں مل کر بھی اس کی خوشبو نہیں جاتی۔ یہ وہ کلی ہے جس کو جب بھی محبت سے دیکھو گے کھلتی اور مسکراتی ہوئی نظر آئے گی، اس لیے اس ہستی کو صرف سمجھنا ہی کافی نہیں بلکہ روح کی گہرائیوں میں محسوس کرنا بھی ضروری ہے۔ ماں اولاد کے درد کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے، کیونکہ مہر و وفا کی اتھاہ گہرائیوں کا نام ماں ہے، جس کی محبت کبھی ختم ہونے والی نہیں، جو اپنی اولاد سے ایثار و قربانی کا صلہ و معاوضہ لینے کے تصور سے کلیتاً پاک ہے۔ دنیا کے تمام عظیم لوگوں کو عظمت ملنے میں ماں کا کردار بہت نمایاں ہے۔ ماں کے بغیر زندگی ویران ہے، زندہ رہو تو ماں کے سنگ اور ہو سکے تو ماں کے مرنے سے پہلے مر جاؤ کیونکہ ماں کے مرنے کے بعد ماں کے وفادار

و تا بعد ریٹے کا زندہ رہنا بہت ہی مشکل ہے۔

الغرض! پوری دنیائے انسانیت ماں کے احترام پر متفق رہی ہے، اسلامی مذاہب ہوں یا غیر اسلامی ماں کی عظمت سب کو مسلم ہے، خدا کے قائل ہوں یا منکر کوئی بھی منصف مزاج ماں کی عزت و شرف کا انکار نہیں کر سکتا۔ انسان ہر کسی کو بھلا سکتا ہے، ہر چیز سے منہ موڑ سکتا ہے، بڑے سے بڑے سہارے کو نظر انداز کر سکتا ہے مگر ماں کی ممتا کو بھلانا ناممکن ہے، کیونکہ یہ ماں ہی ہے جو اخلاص و محبت کا پیکر ہوتی ہے باقی تمام رشتے اغراض پر مبنی ہوتے ہیں، انسان مفادات کی وجہ سے تعلق بناتا ہے اور فائدہ نظر نہ آئے تو تعلق توڑ دیتا ہے مگر ماں کی ہستی اس طرح کی خود غرضی سے مستثنیٰ ہے۔ ماں اولاد کے لیے سراپا دعا بھی ہے اور پیکر ناز و نیاز بھی ہے، میری ناقص رائے کے مطابق ماں کا ہونا سب کچھ ہونے کے مترادف ہے اور ماں کا نہ ہونا سب کچھ چھن جانے کے مترادف ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے سامنے ان کی ماں کا چہرہ جلوہ گر رہتا ہے۔ کاش میزبان ماں بھی کچھ عرصہ اور مجھے اپنی زیارت سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیتی، خدا کرے کہ جس طرح دنیا میں میری ماں ہر وقت میرے انتظار میں اپنی آنکھیں فرش راہ کیے رکھتی تھی جب قیامت کے دن قبر سے اٹھوں تو میری ماں اسی محبت سے میری انتظار میں ہو اور میں اپنی ماں کے قدموں کا بوسہ لے کر اہل محشر سے عرض کروں

یہ کہاں نصیب میرے کہ میں ”ماں“ کے ساتھ ہوتا

کوئی جذبہ محبت میرے کام آگیا ہے

اصغر نورانی

پرنسپل جامعہ امیر حمزہ

خطیب جامع مسجد قبا باغ والی بھائی گیٹ لاہور

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ماں جیسی ہستی دنیا میں کہاں؟

جو اولاد کی خاطر ساری زندگی آرام کی نیند نہیں سو سکتی، جو اولاد کی پیدائش پر موت کا منہ دیکھتی ہے، جس کے خون جگر سے اولاد کا وجود بنتا ہے، جو کئی سال تک اپنے بچے کو تھپکیاں دیکر سلائی رہتی ہے، جو بیمار بچے کو اپنی چھاتی سے لگا کر سردیوں کی طویل رات بیٹھی رہتی ہے، جو اولاد کو بیمار دیکھ کر تڑپتی رہتی ہے، کبھی تعویذ دھاگے کے لیے بھاگتی ہے، تو کبھی منتیں مانتی ہے، کبھی حکیموں اور ڈاکٹروں کی منتیں کرتی ہے تو کبھی رو رو کر اپنے رب کے حضور دعا کرتی ہے، جو اپنی تمام قوتوں کو اولاد کے لیے وقف کر دیتی ہے، جو ساری زندگی اولاد کے لیے شجر سایہ دار بنی رہتی ہے اور اپنے پیار کی چھاؤں میں اپنی اولاد کو غموں کی تپتی ہوئی دھوپ سے بچانے کا انتظام کرتی رہتی ہے۔ کیا ہوا جو آج اس کی کمر جھک گئی ہے، نظر کمزور ہو گئی ہے، ہاتھوں میں رعشہ آ گیا ہے، قوتیں ناکارہ ہو گئیں ہیں، حالت مخدوش ہو گئی ہے اور مجسمہ رنج و الم بنی ہوئی ہے اور جس اولاد کے لیے ساری زندگی ڈھال بنی رہی اسی اولاد کی طرف سے ہمدردی کے دو بول سننے کے لئے تڑپ رہی ہے۔ گھر امیر کا ہو یا غریب کا، افراد خانہ پڑھے لکھے ہوں یا ان پڑھ الا ماشاء اللہ والدین کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ لندن و امریکہ میں بوڑھے والدین کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں ان اداروں میں والدین کی خدمت کا اعلیٰ انتظام ہے، دوا دارو پابندی کے ساتھ دیا جاتا ہے، پارکوں میں سیر کرائی جاتی ہے، ملازم ان کی ٹانگیں

[Click For More Books](#)

دباتے ہیں، واہ واہ کیا بات ہے لندن اور امریکہ کی۔ میں عرض کروں گا کہ جب غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے تو بقول اقبال۔ کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔

پھر اپنے کمالات بھی عیب نظر آتے ہیں اور دوسروں کے عیب بھی کمالات دکھائی دیتے ہیں، جن اداروں کی آپ بات کرتے ہیں کہ حقیقی اولاد حقیقی والدین کو وہاں داخل کر دیتی ہے اور پھر حکومت جانے اور ادارے، نہ اولاد کا والدین سے تعلق نہ والدین کا اولاد سے۔ ان والدین کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی کہ ان کی اولاد کے بچے تو روزانہ سکول جائیں اور پھر روزانہ واپس آ کر اپنے والدین کی نگاہوں کے سامنے رہیں حالانکہ بڑھاپے میں تو والدین صرف چاہتے ہی یہی ہیں کہ زندگی کے جو سانس رہ گئے ہیں ہماری اولاد بھی ہماری نگاہوں کے سامنے رہے مگر ان کی اولاد تو اس پر خوش ہے کہ ہم نے والدین کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے۔ سنو اور یاد رکھو! والدین کو اس حالت میں اداروں کے اندر چھوڑ آنا ان کی کوئی خدمت نہیں بلکہ ان کو اپنے گھر میں عزت کا مقام دینا اور ان کے قدموں کے بوسے لے کر اپنے رب سے دعا کرنا رب ارحمہا کہا ربیبی صغیراً، اے میرے پالنے والے جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تو آج ان پر رحم فرما۔ یہ ہماری حماقت اور بد نصیبی ہے کہ غیروں نے اپنے بنائے ہوئے قوانین کو سینے سے لگا رکھا ہے اور ہم نے خدا و مصطفیٰ کے عطا کیے ہوئے قوانین کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔

تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسانی رشتوں میں سب سے مقدس پاکیزہ اور مضبوط رشتہ ماں کا ہے، ماں گویا زمین میں رب کی رحمت کا نمائندہ خاص ہے، اگر آج اس کی کمر جھک گئی ہے تو خدا کے حکم پر عمل کرتے ہوئے تو اپنے کندھوں کو اس کے

آگے جھکا دے۔ (واخفض لها جناح الذل من الرحمة) کیونکہ تیری خدمت کرتے کرتے ہی تو اس کی کمر جھکی ہے۔ اب یہ چند دن کی تیرے پاس مہمان ہے اس کے بعد اس کا شفقت بھرا چہرہ سارے جہاں میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ پھر تو باغات میں جائے گا تو تجھے وہ خوبصورتی نظر نہ آئے گی جو ماں کے چہرے پر دکھائی دیتی تھی۔ دنیا بھر کے سازوں میں وہ مٹھاس نہ ملے گی جو ماں کے ایک بول میں مل جاتی تھی، ہاں ہاں وہی ماں جو زندگی کے دریا کی سفاک لہروں سے تجھے بچا بچا کز ساحل پہ لے آئی، جس نے تجھے طویل دکھن براہوں پہ چلنا سکھایا اور تیرے لیے خدا نے جس کے قدموں میں جنت کو سجایا۔ ہاں ہاں یہ وہی تو ماں ہے جو ایک ہی وقت میں تیری دایہ جھی تھی، باورچن بھی تھی، درزن بھی تھی اور خادمہ بھی تھی، تیرے لیے اس نے کس کس طرح روپ بدلے مگر تو ہے کہ اس کے لیے (ایک اس کی خدمت کا) روپ بھی نہ دھار سکا۔ جب اس نے تیری خوراک کا اتنا خیال رکھا کہ خود بھوکی رہ کر تجھے کھلاتی رہی، تو آج تو خود پیٹ بھر کر بھی اس کی خوراک کا انتظام نہ کر سکے تو افسوس ہے تجھ پر جب اس نے خود بے آرام رہ کر تیرے آرام کا خیال رکھا اور ہر ممکن تجھے بے آرامی سے بچایا، تو آج تو ماں کی خدمت کو چھوڑ کر کہاں سے آرام کی دولت پائے گا۔ آئے دن ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں ماں کی ممتا بیٹے پہ قربان ہو گئی اور بچے کو بچاتے ہوئے کار کی زد میں آ کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ کبھی تو نے بھی اپنی جان پہ کھیل کر اپنی ماں کی جان بچانے کی کوشش کی ہے! اگر تو نمازی ہے تو جس قبلہ کی طرف منہ کر کے تو پانچ وقت رب کو سجدہ کرتا ہے وہ اگر ابراہیم خلیل نے بنایا ہے اور پتھروں کا بنایا ہے لیکن تیری ماں کی شکل میں گوشت پوشت کا قبلہ جو ہر وقت تیرے گھر میں ہے وہ خود رب جلیل نے بنایا ہے، اُس قبلے میں کھڑے ہو کر ابراہیم نے دعا کی تھی اور یہ

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

قبلہ روزانہ تیرے لیے دعا کرتا نظر آتا ہے، اُس قبلہ کے لئے تجھے چل کر جانا پڑتا ہے اور یہ قبلہ ہر وقت تیرے پاس موجود رہتا ہے، اُس قبلہ کی زیارت کرو تو گناہ معاف ہوتے ہیں، اِس قبلہ کی زیارت کرو تو نیکیاں ملتی ہیں، اُس قبلہ میں جا کر دعا کرو تو قبول ہوتی ہے اور اِس قبلہ سے دعا کراؤ تو قبول ہوتی ہے، اُس قبلہ کا احترام نہ کرو تو بھی ایمان کی خیر نہیں، اِس قبلہ کی توہین کرو گے تو بھی ایمان بچانا ممکن نہیں۔

کسی ہندی شاعر کا ایک شعر ہے جس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک جنگل میں آگ لگ گئی، تمام درخت جل کر کوئلہ ہو گئے، کسی راہ چلنے والے مسافر نے دیکھا کہ ایک پرندہ ایک جلے ہوئے درخت پر بیٹھا ہوا ہے، جس کا آشیانہ بھی اس درخت پر تھا مسافر نے پرندے سے مخاطب ہو کر کہا

آگ لگی اس برش نوں جلن لگے سب پات

توں کیوں جلنا میں پنچھیا جد کھب تمہارے پاس

اے پرندے! جنگل کو آگ لگ گئی ہے، درخت تو بے پرھیں اڑ کر جا نہیں

سکتے جبکہ تیرے پاس تو اڑنے کی طاقت ہے تو اڑ جا اور اپنی جان بچا۔ پرندے

نے جواب دیا۔

پھل کھایا اس برش دا بیٹ لپیڑے پات

اڑنا دھرم نہیں ہے جلنا اس کے ساتھ

یعنی ساری زندگی اس درخت پہ بسیرا کیا ہے، اس کا پھل کھایا ہے، آج اگر

اس پر مشکل وقت آیا ہے تو اس کو جلتا چھوڑ کر اڑ جاؤں؟ میرا مذہب اس کی

اجازت نہیں دیتا، اس کے ساتھ جیا ہوا تو ساتھ ہی جلوں مروں گا تاکہ بیوفاؤں

میں سے نہ ہو جاؤں۔

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ایک تولہ بوجھ اگر ہمارے پیٹ میں پیدا ہو جائے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہماری ماں تو پھر ہمارے پورے وجود کو نو ماہ اٹھا کر پھرتی رہی، اس کی چھاتی سے دودھ پیتے رہے، اس کی گود میں کھیلتے رہے، ساری زندگی اس کی رہنمائی کے محتاج رہے۔ کیا ہم ایک پرندے سے بھی گئے گزرے ہیں کہ آخری عمر میں اپنی ماں کو چھوڑ دیں تاکہ درد کے دھکے کھاتی رہے۔ اگر ماں ہی دھکے کھاتی رہی تو ہمیں کعبہ میں جا کر بھی دھکے ہی کھانے پڑیں گے کیونکہ جنت کعبہ میں نہیں ملتی ماں کے قدموں سے ملتی ہے۔ ایک خوبصورت رباعی اپنی ماں کی نذر کرتے ہوئے بات ختم کر رہا ہوں

میں نے جھانکا خلوتِ جاں میں نگار جاں

کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے تیرے سوا

لکھوں بھی کیا کہ کوئی احوالِ دل نہیں

چینوں بھی کیا کہ سنتا کوئی صدا نہیں

غمزدہ

ماسٹر عابد علی عابد

چک کھول - حافظ آباد

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

حقوق و فرائض کی تقسیم اور ماں

دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس نے ہماری زندگی کے ایک ایک موڑ پہ ہماری پوری پوری رہنمائی فرمائی ہے، عبادات سے لے کر معاملات تک کوئی ایسا گوشہ نہیں جس پر اسلام نے روشنی نہ ڈالی ہو، دین اسلام کے ماننے والے رہنمائی کے لیے کسی دوسرے مذہب کے محتاج نہیں ہیں۔ پھر اگر غور سے دیکھا جائے تو پورے کا پورا اسلام ہمیں حقوق و فرائض کا مجموعہ نظر آتا ہے جس کی بنیاد تین اقسام پر ہے۔

۱- حقوق اللہ، اس میں تمام عبادات آجاتی ہیں (نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ)
۲- حقوق نفس، اس میں خود اپنے جسم کی حفاظت و نگہداشت، تہذیب نفس اور درستگی اخلاق کا نظام آجاتا ہے۔

۳- حقوق العباد: اس میں سب سے پہلا حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے حق کو اپنے ساتھ بیان فرمایا ہے چنانچہ قرآن مجید میں عذر کی وجہ سے جہاد پر نہ جانے والوں کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے (ضعیفوں پر کوئی حرج نہیں اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس اخراجات نہیں) اذا نصحوا اللہ ورسوله (التوبہ: ۹۱) جب کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ رہیں۔

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کریں اور ماجاء به الرسولیہ ایمان لائیں، او امر و نواہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب و ازواج سے محبت کریں اور اسوۂ حسنہ پر کاربند رہیں۔ (امام خطابی)

بلکہ حضور علیہ السلام کا حق ہماری جان سے بھی مقدم ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہماری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

النبنی اولیٰ بالمومنین من انفسہم (الاحزاب: ۶)

یہ نبی علیہ السلام اہل ایمان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ لہذا دنیا و دین کے تمام کاموں میں نبی علیہ السلام کا حکم ان پر نافذ، آپ کی اطاعت ان پر واجب، آپ کے حکم کے مقابلہ میں نفس کی خواہش واجب التکرار۔ کیونکہ نبی علیہ السلام اہل ایمان پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ رحیم و کریم ہیں۔ جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: میں ہر مومن کے لیے دنیا و آخرت میں ان سب سے اولیٰ ہوں۔ سورۃ توبہ میں فرمایا:

وبالمومنین رؤف رحیم (۱۲۸)

(نبی علیہ السلام) اہل ایمان پر کمال مہربانی فرمانے والے ہیں۔
ویسے بھی نبی علیہ السلام اپنی امت کے روحانی باپ ہیں (انا لکم مثل الوالد للولد) مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق والدین سے کہیں بڑھ کر ہیں۔
بلکہ ہماری جان سے بھی زیادہ ہیں چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا۔

واللہ لانت یا رسول اللہ احب الی من کل شیء الانفسی
حضور! اللہ کی قسم! آپ مجھے ہر کسی سے پیارے ہیں سوائے اپنی جان کے۔

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

تو آپ نے فرمایا:

لا يؤمن احدكم حتى اكون عنده احب اليه من نفسه
”اس وقت تک کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی
جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔“

فقال عمر فلانت الان والله احب الي من نفسي۔

پس حضرت عمر نے عرض کیا، آقا اب تو آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ
پیارے ہو گئے ہیں فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الان يا عمر
”تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اب اے عمر تیرا ایمان کامل ہو گیا ہے۔“

(مسند احمد حدیث نمبر ۱۷۳۵۵)

حقوق و فرائض کے بارے میں چند احادیث ملاحظہ ہوں:

☆ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ

السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا:

كلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ الامام راع و مسئول

عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ و هو مسئول عن رعیتہ

والمرأة راعیة فی بیت زوجها و مسئولة عن رعیتہا والخادم

راع فی مال سیدہ و مسئول عن رعیتہ.....

(بخاری ج ۱ ص ۱۲۲، باب الجمعة فی القری والبدن)

تم میں سے ہر ایک زراعی و نگہبان ہے اور کل قیامت میں تم سب سے اس کی
رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ بادشاہ رعایا کا راعی ہے اس سے رعایا کے
بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے اہل و عیال کا راعی ہے اس سے ان کے با
رے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے اس سے اس کے

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

بارے میں پرش ہوگی۔ نوکرو خادما اپنے آقا کے مال و اسباب کا نگران ہے۔ اس کا محاسبہ ہوگا۔ بیٹا باپ کے ساز و سامان کا محافظ و نگران ہے اس سے بھی اس ذمہ داری کا حساب لیا جائے گا۔ تم سب ذمہ دار و نگران ہو اور تم سب سے اپنی اپنی کارکردگی کے بارے میں سوال ہوگا۔

☆ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

يا عبد الله الم اخير انك تصوم النهار و تقوم الليل فقلت
بلى يا رسول الله قال لا تفعل صم و افطر و قم و نم فان
لجسدك عليك حقا و ان لعينك عليك حقا و ان لزوجك
عليك حقا..... (بخاری ج ۱ ص ۲۶۵)

اے عبد اللہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ تو ہر دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے میں نے عرض کیا: ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! فرمایا: ایسا نہ کیا کر روزہ بھی رکھا کر اور افطار بھی کیا کر رات کو قیام بھی کیا کر اور سویا بھی کر۔ بے شک تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔

☆ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ذر داء رضی اللہ عنہ کے درمیان حضور علیہ السلام نے بھائی چارے (مواعاة) کا رشتہ قائم فرمایا تھا ایک موقع پر حضرت سلمان اپنے بھائی (ابو ذر داء) کو بلنے آئے تو حضرت ابو ذر داء رضی اللہ عنہ کی بیوی کو حضرت سلمان نے میلے کپیلے کپڑوں میں دیکھ کر وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا:

اخوك ابو ذر داء ليس له حاجة في الدنيا

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

آپ کے بھائی ابو درداء کو دنیا کی طرف رغبت ہی نہیں (پھر میں کس طرح
بن سنور کر رہ سکتی ہوں)

فجاء ابو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل فاني صائم قال
ما انا باكل حتى تاكل فاكل فلما كان اليل ذهب ابو
الدرداء يقوم قال نم فنام ثم ذهب يقوم فقال نم فلما
كان من اخر اليل قال سليمان ان لربك عليك حقا ولنفسك
عليك حقا ولا هلك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه
فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي
صلى الله عليه وسلم صدق (بخاری ج ۱ ص ۲۶۴)

پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف لائے اور انہوں نے
حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے لیے دسترخوان لگایا اور خود نفل روزہ کی
معذرت کی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ بولے جب تک تم نہیں کھاؤ
گے میں نہ کھاؤں گا۔ تو ان کی خاطر سے ابو درداء نے بھی روزہ توڑ
دیا۔ رات میں دو دفعہ نفل نماز پڑھنے کا حضرت ابو درداء نے ارادہ
کیا۔ حضرت سلمان نے منع کر دیا۔ آخری حصہ شب میں خود بھی اٹھے
اور حضرت ابو درداء کو بھی اٹھایا اور دونوں نے نوافل پڑھے اور اس
کے بعد فرمایا آپ پر آپ کے رب کا بھی حق ہے اور آپ کے نفس کا
بھی حق ہے اور آپ کے اہل کا بھی حق ہے۔ تو ہر حق والے کو اس کا
حق ادا کریں اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس معاملہ کا
ذکر کیا۔ آپ نے حضرت سلمان سے فرمایا، تم سچ کہتے ہو۔

الغرض! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد خوئی اور نسبی رشتوں میں

[Click For More Books](#)

سب سے مقدم حقوق والدین کے ہیں پھر اولاد، بہن بھائی اور دیگر رشتہ داروں کے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس سبھی رشتوں میں میاں بیوی کے حقوق آتے ہیں اور رشتہ مصاہرت کی وجہ سے زوجین کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک بھی اسی زمرہ میں آتا ہے۔

فتاویٰ رضویہ ج ۱ میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں استاد کے حقوق باپ پر مقدم ہیں کیونکہ باپ تو اولاد کے وجود مادی کا سبب ہے جبکہ استاد اس کی روح کی زندگی کا ذریعہ ہے۔ (ملخصاً)

آگے جاتے جائیں تو اہل محلہ میں سے پڑوسیوں کے حقوق کی اس قدر تاکید ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے خیال ہوا کہ ہمسائیوں کو کہیں وارث ہی نہ بنا دیا جائے۔

ہر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق کی فہرست تو بہت طویل ہے مثلاً دعوت دے تو قبول کرو، بیمار ہو تو تیمارداری کرو، فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھو، چھینک آئے تو جواب دو وغیرہ وغیرہ جیسا کہ احادیث مبارکہ میں ہے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ وہ غیر مسلم جو ہمارے ملک میں معاہدے کے تحت (ذمی بن کر) رہ رہے ہیں ان کے بارے میں حکم ہے کہ ان کا خون ہمارے خون کی طرح ہے اور ان کا مال ہمارے مال کی طرح ہے یعنی ان کی جان و مال کی حفاظت بھی ہمارے اوپر لازم و واجب ہے۔

علاوہ ازیں حاکم و محکوم کا تعلق، راعی اور رعایا کا رشتہ، بائع اور مشتری کا ناٹھ اور آجر و مستاجر کا معاملہ یہ سب حقوق و فرائض ہی کی مختلف شاخیں ہیں جن سے فقہ کی کتب بھری ہوئی ہیں۔

ان تمام حقوق و فرائض میں سے زیر نظر کتاب میں ہم بطور خاص ماں کے

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

بارے میں لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں (اگرچہ بعض جگہ ضمناً باپ کا ذکر بھی ہوگا) اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں اگر اکثر مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے لیکن کئی مقامات ایسے بھی ہیں جہاں والدہ کو ترجیح دی گئی ہے اور اس کی مشقتوں کا ذکر بطور خاص کیا گیا ہے جو ایک ماں اپنی اولاد کے لیے برداشت کرتی ہے اور ان تکالیف کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا ہے تاکہ اولاد کے دل میں ماں کی اہمیت اور اس کی قدر بڑھے اور ان کو احساس ہو کہ جس ہستی نے ہمارے لیے اس قدر تکالیف برداشت کی ہیں یقیناً وہ ہماری ہمدردیوں کی بہت زیادہ مستحق ہے۔

اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امام اہلسنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فتاویٰ رضویہ میں والدین کے حقوق کی وضاحت کے ضمن میں فرماتے ہیں۔ ”والد کے حقوق کے مقابلے میں والدہ کے حقوق کی زیادت کے معنی یہ ہیں کہ خدمت میں اور کچھ دینے میں باپ پر ماں کو ترجیح دے مثلاً سو روپے ہیں اور کوئی خاص وجہ مانع تفضیل مادر نہیں تو باپ کو پچیس روپے دے دے اور ماں کو پچھتر روپے دے۔ یا ماں اور باپ نے ایک ساتھ پانی مانگا تو ماں کو پہلے دے اور باپ کو بعد میں یا دونوں سفر سے آتے ہیں تو پہلے ماں کے پیردبائے اور پھر باپ کے اور تعظیم باپ کی زائد ہے کہ وہ اس کی ماں کا بھی حاکم و آقا ہے۔ سبحان اللہ

اسلام سے پہلے جہاں اور لوگوں کے حقوق پامال ہوتے تھے وہاں عورت کی حق تلفی سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ عورت معاشرے میں سب سے کم تر تصور کی جاتی تھی۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اسلام سے پہلے معاشرے میں عورت کو سب سے زیادہ ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گیا اس کی عزت و حرمت کو پامال کیا گیا۔ عورت معاشرے پر اس قدر بوجھ سمجھی جاتی تھی کہ پیدا ہوتے ہی اسے دفن کر دیا جاتا تھا۔ بیوی کے روپ میں بھی اس کے کسی حق کا احساس تک نہیں کیا جاتا تھا۔ آدمی جب

چاہتا کسی عورت سے نکاح کر لیتا اور جب چاہتا طلاق دے دیتا تھا۔

ماں کے روپ میں بھی عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ بلکہ باپ کے مرنے

کے بعد سب سے بڑا بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتا تھا اور کبھی اس کو منڈی میں

لے جا کر بیچ آتا غرضیکہ عورت ہر روپ کے اندر ظلم کی چکی میں پس رہی تھی۔ پس

ایسے میں دین اسلام کی روشنی چمکی کہ جس نے عورت پر سے ظلم و ستم کی تاریکیاں دور

کر دیں اس کے حقوق بحال کیے۔ اس کی عزت و حرمت کی حفاظت کی اس کو ذلت و

پستی کی تاریکیوں سے نکال کر عزت و مرتبت کے اعلیٰ و ارفع مقام پر لاکھڑا کیا۔

اگر عورت ماں کے روپ میں تھی تو قدموں تلے جنت بنا دی۔ اگر بہن کے

روپ میں تھی تو اس کی عزت و حرمت کو بھائیوں کی غیرت بنا دیا۔ اگر بیٹی کے روپ

میں تھی تو اس کی اچھی تعلیم و تربیت پر جنت میں اپنے ساتھ رہنے کی خوشخبری سنا

دی۔ اگر بیوی کے روپ میں تھی تو اس کے حقوق و فرائض کی حد مقرر فرما دی۔

مختصر یہ کہ اسلام نے جہاں مردوں کے حقوق و فرائض کو متعین فرمایا ہے وہاں عورتوں

کو بھی برابر کا مقام دیا ہے ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف۔ ان (عورتوں

) کے لئے وہی ہے جو ان پر ہے بھلائی کے ساتھ، یعنی ہر ایک کے حقوق کی ایسی

حفاظت فرمائی ہے کہ کسی کو بھی اپنی حق تلفی کا احساس تک نہیں ہو سکتا۔ عورت کو غور

کرنا چاہیے کہ اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ وہ اس کو ہر حیثیت سے ایسا مقام عطا کرتا

ہے جو کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ اب ہم عورت کے ماں ہونے کی حیثیت سے

اس کے حقوق و فرائض اور مدارج و مناقب بیان کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی کہ

اللہ تعالیٰ نے اس کو جو درجات عطا کیے ہیں ان کا شکر یہ کس طرح ادا کرنا ہے۔

غلام حسن قادری

۴ اپریل ۲۰۰۸ء

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

عظمتِ ماں اور حکمِ قرآن

☆ سورہ لقمان میں ارشاد ہوتا ہے:

ووصینا الانسان بوالديه حبلته امه و هنا على وهن وفصله

فی عامین ان اشکر لی ولو الدیك (۱۴)

اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی تاکید کی جس کو اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری کے باوجود اٹھائے رکھا اور دو سال میں اس کا دودھ چھڑایا یہ کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا۔

اس آبیہ مبارکہ میں حضرت لقمان بن عنقا بن سدون کی اپنے بیٹے (ٹاران) کو نصیحت کا ذکر ہے۔ نیز اس آیت مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں کا حق بہت زیادہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان تکالیف کا تذکرہ بھی کیا جو ماں اپنے بچے کے سلسلے میں برداشت کرتی ہے۔ جس روز سے رحم میں نطفہ قرار پکڑتا ہے اسی وقت سے ماں تکالیف برداشت کرنا شروع کرتی رہتی ہے۔ پھر ولادت کے وقت جان کنی کی مانند تکالیف سے دوچار ہوتی ہے اور پیدائش کے بعد اسے دودھ پلانی ہے۔ اس کی تربیت کرتی ہے۔ اس کے آرام کی خاطر اپنا آرام قربان کرتی ہے۔ اس لئے ماں کے حقوق پورے کرنے کی بڑی تاکید آئی ہے اور اسی وجہ سے ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

☆ سورۃ احقاف میں اس سے ملتا جلتا ارشاد ہے وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔

ووصینا الانسان بوالدیه احسانا، حبلتہ امہ کرہا ووضعتہ

کرہا وحبیلہ وفصلہ ثلثون شهرا۔ (احقاف: ۱۵)

اور ہم نے آدمی کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے اس کی

ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، تکلیف سے اور جنا اس کو تکلیف سے اور

اسے اٹھائے پھرنا اور اس کا دودھ چھڑانا تیس مہینے ہے۔

عورت کو حاملہ ہونے کے بعد کمزوری، تھکاوٹ اور مشقتیں پہنچتی رہتی ہیں،

حمل خود کمزور کرنے والا ہے پھر درد زہ کمزوری پر کمزوری اور پیدائش کا وقت ایک

جان لیوا مرحلہ ہے پھر رضاعت کی مدت ان سب پر زائد ہے، اس دوران بچے کی

پرورش، بیماری میں اپنا آرام قربان کر کے اس کو اٹھائے پھرنا، رات کو بستر پر

پیشاب کر دے تو اس کے آرام کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، کپڑے

بدلنا، سخت سردی میں خود گیلی جگہ پر سوئے رہنا اور اس کو خشک جگہ پر آرام کی نیند

سلانا، صبح جسم دھو کر نماز ادا کرنا یہی وہ تکالیف ہیں جن کی طرف مندرجہ بالا آیات

کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور ماں کے حقوق کو باپ کے حقوق سے زیادہ رکھا گیا

ہے۔ ظاہر ہے جو ہستی ہمارے لیے اس قدر مصائب جھیلتی ہے وہ ہماری خیر خواہی

کی سب سے زیادہ مستحق کیوں نہ ہو۔ اور اس کی یہ شان کیوں نہ ہو کہ

۔ آنغوش ماور بھی جنت سے کم نہیں

اس کی جدائی بھی قیامت سے کم نہیں

دیکھو مرغی اپنے چوزوں کی حفاظت کرتی ہے انکو اپنے پروں میں لے کر

بیرونی خطرات سے بچاتی ہے لیکن جب وہی چوزے اس سے جدا ہوتے ہیں تو

لڑتے بھی ہیں لاشی بھی ہوتے ہیں لیکن مرغی کو کچھ پروا نہیں ہوتی لیکن ایک ہماری

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ماں ہے کہ اولاد کو کسی عمر میں بھی تکلیف پہنچے تو بستر مرگ پر بھی ہو تو اپنی تکلیف بھول جاتی ہے اور اولاد کی تکلیف کی فکر دامن گیر ہو جاتی ہے۔ اولاد اگر لڑنا بھی چاہے تو لڑنے نہیں دیتی یہ ماں ہے جو اولاد کو پچھڑنے نہیں دیتی

مگر ہائے افسوس: قیامت کی علامات میں سے ہے اطاع الزجل امرئہ و عق امہ (مشکوہ) بندہ اپنی عورت کا فرمانبردار ہونے کے شوق میں ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا۔ جس (عورت) پر اللہ نے اس کو حاکم بنایا ہے اس کی اس قدر اطاعت اور جن (والدین) کے ساتھ قرآن مجید میں تقریباً پندرہ مقامات پر حسن سلوک کا حکم دیا اور اکثر مقامات پر اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے کا ذکر فرمایا ان سے اتنی بے اعتنائی، جس پر روز مرہ کے واقعات شاہد عادل ہیں۔

خدا کے بعد کرو شکر ماں باپ کا لوگوں کی
زباں سے افت نہ کہو چاہے لاکھ ہو گلہ لوگو

حالانکہ اہل علم و بصیرت فرماتے ہیں کہ اس جہان کی سب سے بڑی نعمت کا نام ماں ہے اور اس نعمت کی برکت سے اس جہان کی ساری نعمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ماں ہوگی تو انسان کا وجود ہوگا اور پھر انسان ساری نعمتیں حاصل کر سکے گا اور آخر کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت ہے جس کی برکت سے آخرت کی تمام نعمتوں کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل محبت جہاں نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کے حصول کے لیے اپنے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں وہاں اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت اپنی ماں کی دعائیں لینے میں بھی کوتاہی سے کام نہیں لیتے۔

Click For More Books

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کھجور کا بھاؤ بہت بڑھ گیا لیکن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے کھجور کے ایک درخت میں شرگاف کیا اور اس سے کھجور کا شیرہ نکالا، لوگ حیران تھے کہ گرانی کے اس دور میں آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ حالانکہ اس سے درخت کمزور ہو جاتا ہے اور درخت تو بہت قیمتی ہوتا ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: میری والدہ نے مجھ سے کھجور کے شیرے کی خواہش کا اظہار کیا تھا اور جہاں تک ممکن ہو میں ان کی خواہش کی ضرور تعمیل کرتا ہوں (طبقات ابن سعد) اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ جب ماں اپنی اولاد پہ جان تک چھڑکتی ہے تو اولاد کو بھی ان کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔ کسی نے کیا خوب کہا

چہڑے گھر وچ ماں نہیں ہوندی اس ویڑے وچ چھاں نہیں ہوندی
پتر بھاویں جان وی منکن ماواں کولوں ناں نہیں ہوندی

خدمتِ ماں اور فرمانِ سید مرسلان ﷺ

بہت ساری احادیث میں والدین کے حقوق اور ان کے مرتبہ و مقام کا اکٹھا ذکر ہے لیکن کئی احادیث میں صرف ماں کی عظمت و شان الگ سے بیان کی گئی ہے یا ماں کے حقوق کو مقدم رکھا گیا ہے اس لیے چند احادیث اس حوالے سے سپرد قلم کی جا رہی ہیں۔

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا۔

یا رسول اللہ من احق بحسن صحابتی؟ اے اللہ کے رسول! میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: امك ثم امك ثم ابك ثم ادناك فادناك۔ تیری ماں پھر

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ماں تسکین جان (۳۰)

تیری ماں پھر تیری ماں۔ پھر تیرا باپ پھر جو جتنا زیادہ قریبی ہو پھر اس سے قریب والا۔ (بخاری و مسلم)

اسی مفہوم سے ملتی جلتی ایک حدیث ابن ماجہ شریف میں ہے جس کو حضرت مقدام بن معدیکرب نے روایت کیا ہے اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، ان الله يوصيكم بآباءكم (ثلاثًا)، ان الله يوصيكم بآباءكم ان الله يوصيكم بالاقرب فالاقرب۔

بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے (یہ بات آپ نے تین بار ارشاد فرمائی) بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے باپوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اس کے بعد جو جتنا زیادہ قریب ہے اس کے قرب کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہیں (حسن سلوک کا) حکم دیتا ہے۔ اس مفہوم کی اور بھی کئی احادیث کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔

☆ حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جاہمہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں۔

يا رسول الله اردت ان اغزو وقد جئت استشيرك۔

اے اللہ کے رسول! میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں مشورہ کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ فقال هل لك امك؟ فرمایا: کیا تیری ماں ہے؟ عرض کیا: نعم، ہاں ہے۔ فرمایا: فالزمها فان الجنة عند جملتها۔ (احمد نسائی) اس کے پاؤں پکڑنے جنت اس کے پاؤں میں ہے۔

ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے الجنة تحت اقدام الامهات (کنز العمال) جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ماں کی خدمت کا صلہ

☆ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انى حصلت امى على عنقى فرسخين في رمضان شديدة لواقبت فيها قطعة لحم لنضجت فهل اديت شكرها فقال لعله ان يكون بطلق واحدة

(رواه الطبرانی فی الصغير، عمدة القاری شرح بخاری، کتاب الادب ص ۱۲۹)

بے شک ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا یا رسول اللہ: میں اپنی ماں کو اپنی گردن پہ اٹھا کر دو فرسخ (چھ میل) کا سفر کر چکا ہوں اور وہ بھی ایسی شدید گرمی میں کہ اگر اس میں گوشت کا ٹکڑا پھینکا جائے تو بھن جائے، تو کیا میں نے اپنی والدہ کی خدمت کا صلہ ادا کر دیا؟ فرمایا: تیرا یہ کام صرف ایک ہی مرتبہ (کی خدمت کا صلہ) ہے (نہ کہ ماں کی ساری خدمات کا)

ماں کے قدموں کا بوسہ

عمدة القاری شرح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔

ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انى نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اتى البيت فاقتل اسفل الاسكفة فقال قبل قدمي امك وقد وفيت نذرك۔

(ج ۲۳ کتاب الادب ص ۱۳۹)

بے شک ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور عرض گزار ہوا

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

کہ میں نے نذر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ پر مکہ کھول دے (فتح ہو جائے) تو میں بیت اللہ شریف کے پاس جا کر اس کی پختی چوکھٹ کو بوسہ دوں گا۔ پس حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی ماں کے قدم چوم لے تیری نذر پوری ہو جائے گی۔

اس پر علماء فرماتے ہیں لا بأس بتقبیل قبر الوالدین، والدین کی قبر کو چومنے میں بھی حرج نہیں ہے۔

لان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انى حلفت ان اقبل باب الجنة وجبهة حور العين فامرته ان يقبل رجل الام وجبهة الاب فقال يا رسول الله ان لم يكن ابواى حين؟ قال قبل قبرها قال فان لم اعرف قبرها؟ قال خط خطين انا وحدها قبر الام والاخر قبر الاب ققبلها ولا تحنث

(التبرک لعلی الاحمدی بحوالہ کشف الارتیاب ص ۴۴۰)

کیونکہ ایک بندہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے قسم کھائی ہے کہ جنت کا دروازہ اور حور کی پیشانی چوموں گا، حضور علیہ السلام نے فرمایا: ماں کے قدم اور باپ کی پیشانی چوم لے۔ عرض کیا اگر میرے والدین فوت ہو گئے ہوں تو؟ فرمایا ان کی قبر کو بوسہ دے لے۔ عرض کیا اگر مجھے ان کی قبر کے بارے میں علم نہ ہو تو؟ فرمایا دو لکیریں لگا کر ایک کو ماں کی قبر سمجھ کر چوم لے اور دوسری کو باپ کی قبر کی نیت کر کے بوسہ دے لے اور قسم نہ توڑ۔

ماں کی خدمت کرنے سے بڑا گناہ معاف

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا۔

یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما فهل لی من توبۃ۔

یا رسول اللہ، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔

حضور علیہ السلام نے فرمایا، هل لك من امر، کیا تیری ماں ہے؟ عرض کیا نہیں،

فرمایا هل لك من خالة، کیا تیری خالہ ہے؟ عرض کیا ہے، فرمایا قبر ہا، خالہ

سے اچھا سلوک کر (تیرا گناہ معاف ہو جائے گا کیونکہ الخالہ بمنزلۃ الام، خالہ

ماں ہی کے قائم مقام ہوتی ہے) (رواہ الترمذی)

ماں ماں ہے اگر چہ کافرہ و مشرکہ ہو

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں قریش مکہ کے (حدیبیہ

والے) معاہدے کے زمانہ میں میری مشرکہ ماں میرے پاس (مکہ سے سفر کر کے

مدینہ) آئی تو میں نے حضور علیہ السلام سے مسئلہ دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم!

ان امی قدمت علی وہی راغبۃ افاصلہا؟

میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ میری خدمت کی حاجت مند ہے تو کیا

میں اس کی خدمت کروں؟ قال نعم صلیہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا: ہاں تو

اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ (بخاری و مسلم)

رضاعی ماں کا احترام

”جعرانہ“ مکہ مکرمہ سے ایک منزل کے فاصلہ پر ایک بستی ہے جہاں حضور

علیہ السلام فتح حنین کے بعد سولہ دن قیام پذیر رہے اور مالِ غنیمت تقسیم فرماتے رہے حضرت ابوالطفیل غنوی فرماتے ہیں (اسی مقام پر) میں حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت آئی۔

فبسط النبی صلی اللہ علیہ وسلم رداءہ حتی قعدت علیہ۔

پس حضور علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک بچھا دی اور وہ عورت اس چادر پر بیٹھ گئی۔ حضرت ابوالطفیل فرماتے ہیں میں نے حاضرین سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے؟ فقالوا امہ التی ارضعتہ۔ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ سرکارِ دو عالم علیہ السلام کو دودھ پلانے والی (دائی حلیمہ) ہے (اشعۃ اللمعات شرح مشکوٰۃ ص ۲۲۰) مرقات و مواہب لدنیہ میں یہ بھی ہے فقار ایضا وبسط رداءہ لہا وجلست، حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرمایا اور خاص ان کے لیے چادر بچھا دی جس پر وہ بیٹھ گئیں۔

معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ماں کی عزت کرنے کی صرف ہدایات ہی نہیں دیں بلکہ عملی نمونے بھی پیش فرمائے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب رضاعی ماں کا اس قدر احترام ہے تو حقیقی ماں کی کیا شان ہوگی؟

مبارک تجھے یہ بڑائی حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ
معطر دو عالم کو جو کر گیا ہے یہ کس باغ سے پھول لائی حلیمہ
دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ
تیری گود میں وہ گل ہاشمی ہے کہ طالب ہے جسکی خدائی حلیمہ

دروزہ کا ایک جھٹکا

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو اس حال میں بیت اللہ شریف کا طواف کرتے دیکھا کہ وہ اپنی ماں کو کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھا۔ اس شخص نے

[Click For More Books](#)

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کی کہ ”آپ بتائیں کہ میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟“ آپ نے فرمایا: لاؤلا بزفرة، نہیں، بلکہ دروزہ کے ایک جھٹکے کا بھی نہیں، البتہ تو نے حسن سلوک اور نیکی کی ہے اور اللہ تعالیٰ درجہ بلند فرما دے گا اور کم پر زیادہ اجر و ثواب دے گا۔ (ازواج جلد دوم)

ایسے ہی ایک شخص کو جو اپنی ماں کو پیٹھ پر اٹھا کر ضروریات کے لیے لے جاتا اور پھر واپس لاتا تھا جب اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے والدہ کے حقوق کی ادائیگی کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا: نہیں کیونکہ تیری ماں تیری خدمت اس جذبے سے کرتی رہی کہ وہ تیرے زندہ رہنے کی آرزو مند تھی اور تو یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ تو اس کی جدائی کا آرزو مند ہے یعنی تاکہ بخیر و خوبی تو اپنا حق خدمت ادا کر لے اور وہ تجھ سے رخصت ہو۔ (اصلاح المجتمع ص ۲۲۰)

ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کر سات حج کرائے اور خیال کیا کہ شاید میں نے ماں کا حق خدمت ادا کر دیا ہے، خواب میں اس کو آواز آئی کہ جب سردی کے موسم میں تو اپنی ماں کے پاس سو رہا تھا اور تو نے پیشاب کر دیا تو تیری ماں نے اٹھ کر بستر دھویا، غریبی کی وجہ سے دوسرا بستر نہ تھا چنانچہ تیری ماں گیلے بستر پہ سو گئی اور تجھے اس نے ساری رات سینے پر لٹائے رکھا ابھی تو اس ایک رات کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ (تعلیم الاخلاق ص ۲۶۷، سخی حکایات ج ۳ ص ۲۰۹)

ماں خلوص و مہر کا پیکر محبت کا ضمیر

ماں خدا کا رحم وہ دنیا میں جنت کی سفیر

ماں زسرتا پامحبت ماں زسرتا پاکرم

ماں وہ جس کے دم سے قائم ہے وفاؤں کا بھرم

اسی پس منظر میں ایک شاعر کا کتنا پیارا شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک

بار بچپن میں رات کے وقت میں ڈر گیا تو میں نے ڈر کر کہا امان، وہ دن گیا اور یہ دن آیا کہ میری ماں آج تک سو نہیں سکی کیوں کہ وہی خیال اس کے ذہن میں گونج رہا ہے کہ کہیں میرا بیٹا پھر ڈر نہ جائے۔ حالانکہ اب خود صاحب اولاد ہو گیا ہوں۔

۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابلش

میں نے اک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے

ماں محبت کا ضمیر اور جنت کی سفیر ہے

سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی عظمت کے متعلق ارشاد فرمایا: ”جس نے ماں کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیا تو وہ اس کے لئے جہنم کی آگ سے پرہیز ہوگا۔ (کنز العمال - صحیح مسلم ص ۴۵، جلد نمبر ۷)

حضرت بشر علیہ الرحمہ ماں کے حقوق کی اس طرح وضاحت فرماتے ہیں: ”جو کوئی شخص اپنی والدہ سے اس وجہ سے قریب ہو کہ اس کی بات سنے تو وہ اس سے افضل ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی تلوار چلاتا ہے۔“

ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں اپنی ماں کے نان و نفقہ اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا مگر وہ پھر بھی مجھے اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی رہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

ادحقها فوالله لو قطعت لحكك ما ادیت ربع حقها اما

علبت ان الجنة تحت اقدام الامهات (درۃ الناصحین ص ۲۲۹)

تو اپنی ماں کا حق ادا کرتا رہ، اللہ کی قسم اگر وہ تیرے جسم کو کاٹ بھی لے تو پھر بھی تیری طرف سے اس کے حق کا چوتھائی حصہ بھی ادا نہیں ہوگا، کیا تو جانتا نہیں ماؤں کے قدموں تلے جنت ہے۔

یہ حکم سن کر اس شخص نے عرض کیا واللہ لا اقول لها شیئا۔ اللہ کی قسم! آج

[Click For More Books](#)

کے بعد میں اپنی ماں کی ہر بات برداشت کروں گا اور جواب میں ایک لفظ بھی نہ بولوں گا، پھر وہ اپنی ماں کے پاس حاضر ہوا اور اس کے قدم چوم کر عرض کیا کہ مجھے میرے آقا نے یہی حکم دیا ہے۔

نام ماں کا کچھ اس قدر ہے حسین
ماں کی سی نعمت جہاں میں کوئی نہیں
جس نے بھی ماں کا احترام کیا
ماں کی عظمت کو جس نے جانا ہے
جھوم جاتے ہیں آسمان و زمین
تم کو کرنا پڑے گا اس پر یقین
وہ بشر سرخرو جہاں میں ہوا
پھر ہوا ہے وہ نامراد کہیں؟

ایک وضاحت

قرآن مجید میں والدین کی اطاعت کا جہاں حکم ہے اس سے امور خیر میں اطاعت کرنا مراد ہے خدا نخواستہ اگر والدین اولاد کو گناہ کا حکم دیں تو ان کی بات ہرگز نہ مانی جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ سے منع کیا ہے اور بہر طور اللہ و رسول کا حکم والدین کے حکم پر مقدم ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو ان کی والدہ حمنہ بنت ابی سفیان نے ان کے خلاف بطور احتجاج بھوک ہڑتال کر دی اور کہا: اگر تو نے اسلام نہ چھوڑا تو میں اسی حالت میں مر جاؤں گی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیت نازل فرمائی۔

وان جاهداک لتشکک بی مالیس لک بہ علم فلا تطعہا

وضاحبہا فی الدنیا معروفاً (لقمان: ۱۵)

جس کا خلاصہ یہی ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی و احسان کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ تمہیں گناہ کا حکم دیں تو گناہ بھی کر لو بلکہ جائز و بھلائی کے کاموں میں ان کی بات ضرور مانو۔

[Click For More Books](#)

کئی نوجوان کہتے سنے گئے کہ ہم داڑھی رکھنا چاہتے ہیں مگر والدین نہیں رکھنے دیتے بلکہ بعض نے رکھی اور والدین نے سوتے میں کاٹ دی۔ ایسے والدین کو خدا ہدایت دے کہ جو اولاد کے ایسے پاکیزہ جذبے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ و رسول کے مقابل میں آجاتے ہیں۔ والدین کی ایسی حرکات کو نظر انداز کر دینا لازم ہے اور خدا و رسول کے احکامات پہ عمل کرنا ضروری ہے، والدین کا مرتبہ اولاد کی نگاہوں میں اللہ اور اسکے رسول نے ہی تو بڑھایا ہے۔

اب مسلمان والدین کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اولاد کو خدا و رسول کے ارشادات پر عمل کرنے سے باز رکھیں اور پھر اس گئے گزرے دور میں کوئی بچہ شریعت کی طرف آتا ہے تو والدین کو گھی کے چراغ جلانے چاہئیں اور سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اولاد ماں کا دودھ پینے کی بجائے ڈبے کا دودھ پیتی ہے اور انگریز کی تعلیم حاصل کر کے اگر شریعت کی بات کرتی ہے تو اور کیا چاہیے؟ اکبر الہ آبادی نے کیا خوب کہا

طفل میں بو آئے کیوں ماں باپ کے اطوار کی

دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی

مسئلہ: ایک مسئلہ یہ بھی یاد رہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے والدین مشرک

ہوں اور وہ اس کو مجبور کریں کہ ہمیں بت خانے لے جا تو فلا تطعہا کے تحت

بیٹے کے لیے والدین کو بت خانے لے جانا ہرگز جائز نہیں ہے لیکن اگر کسی طریقے

سے وہ وہاں چلے جائیں اور پھر بیٹے کو پیغام بھیجیں کہ ہمیں آکر لے جا تو بیٹے کو

چاہیے کہ جا کر اپنے والدین کو واپس لے آئے۔ لے کر جانا گناہ ہے اور واپس لانا

ثواب ہے۔ غور کرو کہ مشرک والدین کی خدمت پر بھی ثواب مل رہا ہے تو موحد

والدین کی خدمت پہ کس قدر ثواب ملتا ہوگا۔

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

دوستاں را کجا کنی محروم
تو کہ با دشمنان نظر داری

قبر میں قرآن پاک کی تلاوت

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جنت میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سن کر پوچھا، من هذا؟ یہ کون ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے فرشتوں نے عرض کیا۔ حارثہ بن نعمان آپ کے صحابی ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام سے یہ بات سنی تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ہمیں پتہ چلے کہ حضرت حارثہ کو کس عمل کے نتیجے میں یہ فضیلت ملی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: وکان ابر الناس بامه، حارثہ کو یہ فضیلت اس لیے ملی ہے کہ وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا تھا۔

(مشکوٰۃ ص ۴۱۹، مراۃ شرح مشکوٰۃ ج ۶ ص ۵۲۵، شرح السنہ، خلاصہ)

وقف ہے کس کی زباں تیری دعاؤں کے لیے
کون ہے سینہ سپر تیری بلاؤں کے لیے
کیا کبھی تو نے تدبیر بھی کیا اے نوجواں
کس کے سینے سے چمپتی تھی تری منھی سی جاں

مقبول حج کا ثواب

حج کرنا کس قدر مشکل عمل ہے لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ثواب حاصل کرنا کتنا آسان بنا دیا ہے اور یہ نعمت بھی ہمیں والدین کی وجہ سے نصیب ہوئی ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

ما من ولد بار ينظر الى والديه نظر رحمة الا كتب الله له

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

بِکَلْ نَظْرَةٍ حِجَّةٍ مَبْرُورَةٍ قَالُوا وَإِنْ نَظَرَ كُلُّ يَوْمٍ مِائَةَ

مَرَّةٍ قَالَ نَعَمْ اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَطِيبُ (مشکوٰۃ باب البر والصلۃ)

یعنی والدین کا اطاعت شعار اور خدمت گزار بیٹا جب اپنے والدین

کی طرف نگاہِ رحمت سے ایک بار دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک

مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور! اگر

کوئی روزانہ سو بار دیکھ لے تو؟ فرمایا، ہاں اللہ تعالیٰ بہت بڑا اور بہت

پاک ہے (مطلب یہ کہ اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے اگر کوئی کروڑ

بار بھی روزانہ یہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنے ہی مقبول حجوں کا

ثواب عطا فرمائے گا)

اس سے اندازہ لگالیں کہ جب والدین میں سے کسی ایک کا ایک بار محبت

سے چہرہ دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے تو جس محبوب خدا علیہ التحیۃ والثناء کے

قدموں پر سارے جہاں کے والدین قربان پھر ان کا چہرہ دیکھنا کس قدر فضیلت

رکھتا ہوگا اور وہ خوش نصیب جو صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار

میں محو رہتے تھے ان کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔

مجھے تو ان کے مقدر پہ رشک آتا ہے

وہ لوگ کیا تھے جو حبیب کبریا سے ملے

صحابہ وہ جن کی ہر صبح، صبح عید ہوتی تھی

نبی کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی تھی

درمنثور ج ۴ میں ہے کہ جو شخص اپنی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ چاہتا

ہے اس کو چاہیے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے اور رشتہ داروں سے صلہ

رحمی کرے۔

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

نزہۃ المجالس میں ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والا جنت میں انبیاء کرام سے صرف ایک درجہ نیچے ہوگا جبکہ والدین کو ستانے والے اور شیطان کے درمیان دوزخ میں صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔

حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو بعد از وصال کسی دوست نے خواب میں دیکھا کہ جنت کی سیر فرما رہے ہیں اور اللہ کی حمد و ثناء کر رہے ہیں۔ دوست نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا تو آپ نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت اور ان کی سخت باتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے ”جو شخص اپنے والدین اور اپنے رب کا فرمانبردار ہوگا اس کا مقام اعلیٰ علیین میں ہوگا“۔ (عیون المجالس) کسی نے کیا خوب کہا ہے:

لکھاں ساک نہیں بندے دے وچ دنیا پر نہیں ساک کوئی ماں دے ساک ورگا
پتر بھانویں زمانے دا ولی ہووے پر نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا
حضرت بایزید بسطامی ہی کا واقعہ ہے فرماناتے ہیں میری عمر بیس برس تھی کہ والدہ ماجدہ نے مجھے بلایا تو میں نے اپنا ہاتھ بطور تکیہ ان کے سر کے نیچے رکھ دیا جو سن ہو گیا مگر احتراماً میں نے ہاتھ نہ نکالا تا کہ ان کے آرام میں خلل نہ آئے، اس دوران میں نے دس ہزار مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لی۔ ہاتھ مفلوج ہو گیا (لیکن اولیاء کی سرداری تو مل گئی۔) (نزہۃ المجالس ج ۱ ص ۱۹۶)

آپ ہی کا واقعہ ہے کہ سخت سردی کی رات تھی میری ماں نے پانی مانگا جب میں پانی لے کر حاضر ہوا تو والدہ سوچکی تھیں، میں پانی لے کر کھڑا رہا۔ صبح دیر بعد پھر بیدار ہوئیں تو میں نے پانی پیش کیا سردی اس قدر تھی کہ میری انگلی پر ایک قطرہ پانی گرا تو برف بن گیا، میں نے اس کو اتارنا چاہا تو میری انگلی کا گوشت اتر گیا اور خون جاری ہو گیا۔ والدہ ماجدہ کو پوری بات معلوم ہوئی تو انہوں نے دعا

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

کی ”یا اللہ! میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا“۔

(نزہۃ المجالس ج ۱ ص ۱۹۶)

اور ماں بھی ایسی کہ جب حضرت پاپزید اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں نے کبھی مشتبہ کھانا نہ کھایا تھا۔ ایسی ہی ماؤں کے ہاں پیدا ہونے والے بیٹے پاپزید بسلامی بنتے ہیں۔

والدہ خواب محبت کی صحیح تعبیر ہے
والدہ صدق و صفا کے لفظ کی تفسیر ہے
والدہ مہر و وفا کی اک حسین تصویر ہے
والدہ کیا ہے سراپا جذبہ تعمیر ہے
بستی الفت کی آبادی اسی کے دم سے ہے
گلشن ہستی کی شادابی اسی کے دم سے ہے

جنت کے دروازے

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا:

من اصبغ مطیعا لله فی والدیہ اصبغ له بابان مفتوحان

من الجنة وان کان واحدا فواحد (مشکوٰۃ ص ۴۲۱)

جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ والدین کے بارے میں اللہ

تعالیٰ کا حکم مانتا ہو (یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا

ہے) تو اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور

اگر والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے (اور اس کی خدمت کا جذبہ

لے کر صبح کی) تو جنت کا ایک دروازہ اس کے لئے کھولا جاتا ہے۔

[Click For More Books](#)

حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام سے ایک شخص نے والدین کے حقوق کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا:

ہما جنتک و نارک، (مشکوٰۃ ص ۲۲۱)

یہ دونوں تیرے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی۔

یعنی ان کی خدمت کرے گا تو جنت کا حق دار بن جائے گا ورنہ یہ ہستیاں

تیرے لیے جہنم کا بھڑکتا ہوا شعلہ اور آگ کا دکھتا ہوا انگارہ ہوں گی۔ جنت بھی

تیری ہیں یہی اور دوزخ بھی یہی ہیں۔

اللہ کی ہدایت ماں باپ کی ہے خدمت

دونوں جہاں کی عزت ماں باپ کی ہے خدمت

دل کی بہاریہ ہے جاں کا قرار یہ ہے

ہر اک قدم پہ رحمت ماں باپ کی ہے خدمت

بوڑھا انہیں جو پاؤ ہرگز نہ دل دکھاؤ

قرآن کی نصیحت ماں باپ کی ہے خدمت

والدین کی نافرمانی

یاد رہے جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ

تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین سے حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ مثلاً،

لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احساناً۔ (البقرہ)

وقضی ربک ان لا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احساناً (الاسراء)

اس طرح شرک سے منع کرنے کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا

ذکر ہے اور اس کے بعد اولاد کو قتل کرنے سے منع کرنا، ناحق قتل سے روکنا اور دیگر

بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے دیکھیے سورہ النعام آیت ۱۵۱، ۱۵۲

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت بڑی نیکی ہے اس نیکی کے فوراً بعد جس نیکی کا نمبر آتا ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی نیکی ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے اس گناہ کے بعد والدین کی نافرمانی سب سے بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا: کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ بتاؤں؟ عرض کیا گیا بتائیں، فرمایا:

الاشراك بالله وعقوق الوالدين (بخاری ص ۲۶۲، مسلم ج ۱ ص ۶۴)

اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ ایک حدیث میں ہے کہ تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملہ کو دہرایا۔

ملعون من عقى والديه (طبرانی، حاکم، فتاویٰ رضویہ ج ۱۰ ص ۳۹۳)

ملعون و خدا کی رحمت سے دور ہے جو اپنے والدین کو ستاتا ہے۔

اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا،

رغم انفه رغم انفه رغم انفه، ذلیل و رسوا ہوا۔ جب پوچھا گیا کون یا

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! تو آپ نے فرمایا:

من ادرك والديه عند الكبر احدهما او كليهما ثم لم

يدخل الجنة (مشکوٰۃ ص ۴۱۸)

جو شخص اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں

پائے اور پھر (انکی خدمت کر کے) جنت میں نہ جاسکے۔ نیز فرمایا تین شخصوں کی نہ

فرضی عبادت قبول ہے نہ نقلی، ان میں سے پہلا وہ ہے جو والدین کو ستاتا ہے

(فتاویٰ رضویہ ج ۱۰ ص ۳۹۳، بحوالہ ابن ابی عاصم فی السنہ بسند حسن)

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ماں باپ نہ ہوں راضی ناراض ہے خدا بھی
اللہ کی مسرت ماں باپ کی ہے خدمت
ان کی سبھی دعائیں درد و الم مثالیں
ہر دم پیام راحت ماں باپ کی ہے خدمت

(پروفیسر محمد احمد شاد)

☆ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے
والدین کو گالی دینا گناہ کبیرہ قرار دیا تو صحابہ کرام نے حیران ہو کر پوچھا یا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! بھلا اپنے والدین کو کون گالی دیتا ہے، فرمایا،

یسب الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ (بخاری ج ۲ ص ۸۸۴)

کوئی کسی کے والدین کو گالی دے اور وہ جواب میں اس کے والدین کو گالی
دے۔ (تو گویا اس نے خود اپنے والدین کو گالی دی اگر یہ آغاز نہ کرتا تو جواب
میں اس کے والدین کو گالی نہ دی جاتی اور اب تو لوگ کھلم کھلا خود والدین کو گالیاں
دیتے ہیں۔ العیاذ باللہ) عرض کیا گیا حضور! اگرچہ والدین بیٹے پر ظلم ہی کرتے
ہوں (تب بھی والدین کی خدمت میں ضروری ہے) فرمایا:

وان ظلماہ وان ظلماہ وان ظلماہ۔ (مشکوٰۃ ص ۲۳۱)

ہاں اگرچہ ظلم ہی کرتے ہوں (تین مرتبہ یہی فرمایا)

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے
فرمایا جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی راہ سے سونگھی جاسکتی ہے لیکن احسان جتانے
والا، والدین کا نافرمان اور شراب کا عادی یہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں
گے۔ (رواہ الطبرانی فی الصغیر، الدعوة الاصلاحیہ ص ۱۶۶)

☆ نبی اکرم علیہ السلام کا ارشاد ہے کل الذنوب یغفر اللہ منها

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ماشاء الاعقوق الوالدين فانه يعجل لصاحبه في الحياة

والبنات (مشکوٰۃ ص ۲۲۱)

اللہ تعالیٰ جو گناہ چاہے بخش دے مگر والدین کی نافرمانی نہیں بخشتا بلکہ (آخرت میں اس گناہ کی سزا کے علاوہ) دنیا میں بھی اس کی سزا دیتا ہے۔ یعنی والدین کی نافرمانی کرنے والے کے لئے اس قدر سخت وعید ہے کہ وہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی سخت عذاب کا مستحق ہے۔

سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو آگ کے اندر اس حال میں دیکھا کہ وہ آگ کے تنوروں میں لٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا: ”اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو ماں، باپ کو گالیاں دیتے تھے۔“

ماں کی نافرمانی حرام ہے

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن چیزوں کو حرام فرمایا ان میں سرفہرست ماں کی نافرمانی ہے۔
ان اللہ حرم علیکم عقوق الامهات وواد البنات ومنع وهات وکره لکم قیل وقال وکثرة السوال واضاعة المال۔

(بخاری شریف)

بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا۔ (راہ خدا میں خرچ کرنے سے) روکنا، مانگنے کے لئے ہر وقت تیار رہنا، (بیکار) گفتگو کرنا، کثرت سے سوال کرنا اور مال ضائع کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ غور کریں! ان تمام گناہوں میں سب سے پہلا گناہ ماں کی نافرمانی کو قرار دیا گیا نیز پہلے نمبر پر اس کا ذکر اس کے بڑا ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے اور کیوں نہ ہو۔

[Click For More Books](#)

انبیاء بھی اس کی آغوشِ محبت میں پلے
اولیاء بھی اس کے آخر دستِ شفقت میں پلے
اتقیاء بھی اس کے دامانِ عطوفت میں پلے
اصفیاء بھی اس کے احسان و مروت میں پلے
اس کی خدمت سب پہ لازم ہے بشر کوئی بھی ہو
اس کی خوشنودی مقدم ہے حشر کوئی بھی ہو

آج کل اکثر لوگ اپنی ماؤں کے مقابلے میں اپنی بیویوں کو ترجیح دیتے ہیں
وہ درج ذیل حدیث پاک سے عبرت حاصل کریں جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”اے مہاجرین و انصار کی جماعت! جو اپنی زوجہ کو اپنی
ماں پر ترجیح دے یعنی فضیلت دے تو اس پر اللہ تعالیٰ، ملائکہ اور تمام لوگوں کی
”لعنت“ اللہ تعالیٰ نہ اس کے فرض قبول فرمائے گا نہ نوافل مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی
بارگاہ میں توبہ کرے اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کی رضا و
خوشنودی طلب کرے اللہ تعالیٰ کی رضا ماں کی رضا میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی
ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے۔“ (الزواج جلد دوم)

غور کریں کہ اسلام نے عورت کو بحیثیت ماں کتنا ارفع، اعلیٰ مقام عطا فرمایا
ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لئے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ
کی فرمانبرداری میں گزاریں کہ جس رب نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے اس
کا کچھ تو شکر ادا ہو سکے۔ لیکن ہماری مائیں اپنے مقام کو بھول کر نیز اپنے رب کے
احسان کو بھول کر کس قدر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں۔ لہذا ہماری ماؤں کو چاہیے
کہ اسلام نے بحیثیت ماں انہیں جو مرتبہ عطا فرمایا ہے اس مرتبے کو مد نظر رکھیں اور
اپنی اولاد کی تربیت دینی طریقے سے کریں۔

[Click For More Books](#)

عشق کی دنیا تیرے اخلاص سے آباد ہے
تیرا دل حرص و ہوا سے کلیتاً آزاد ہے

ماں کی دعا کا اثر

نزہۃ المجالس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا: سمندر کی طرف جائیں اور وہاں عجیب منظر ملاحظہ کریں۔ آپ نے اپنے وزیر حضرت آصف کو ساتھ لیا اور ساحل سمندر پر پہنچے مگر کوئی چیز نظر نہ آئی۔ تو حضرت آصف کو حکم دیا کہ سمندر میں غوطہ لگائیں۔ جب انہوں نے حکم کی تعمیل کی تو ایک عجیب و غریب گنبد نما عمارت نظر آئی جس میں چار دروازے موتی، یاقوت، جواہر اور زبرجد کے بنے ہوئے پائے اور سبھی کھلے پڑے ہیں لیکن ان میں قطرہ بھر پانی بھی اندر نہیں جاتا۔ اس گنبد نما عمارت میں ایک نہایت حسین و جمیل نوجوان عبادت میں مصروف ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اس سے سارا حال معلوم کیا۔ وہ بیان کرنے لگا حضور! میرا باپ اپاہج اور والدہ اندھی تھی۔ میں نے سات سال تک دونوں کی خوب خدمت کی۔ میری والدہ کا وقت اجل آیا تو اس نے مجھے دعا دی ”الہی! اس کو اپنی عبادت کے لیے طویل عمر عطا فرما“۔ بعض روایات میں یہ دعا مذکور ہے اللھم ارزقہ القناعة واجعل مکانہ بعد وفاتی فی موضع لا فی الارض ولا فی السماء، اے اللہ میرے بیٹے کو قناعت عطا فرما اور میری وفات کے بعد اسے ایسی جگہ ٹھکانہ عطا فرما جو نہ زمین میں ہو نہ آسمان میں۔

(درۃ الناصحین فی القواعد والارشاد ص ۴۸، ۴۹)

جس نے ماں کا ادب بہ دل ہے کیا
وہ کبھی نہ ذلیل و خوار ہوا

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

تم کو مل جائے گی بہشت بریں

ماں سی نعمت جہاں میں کوئی نہیں

اسی طرح جب میرے والد ماجد کے وصال کا وقت پہنچا تو انہوں نے بھی دعا سے نوازا۔ ”الہی! میرے بیٹے کو ایسی جگہ عبادت کی توفیق عطا فرما جہاں شیطان کا گزرتک نہ ہو۔ چنانچہ میں ایک دن ادھر آ نکلا تو مجھے یہ گنبد نظر آیا۔ میں اندر داخل ہوا اور اسی دن سے یہاں مصروف عبادت ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ”تم کتنے عرصے سے یہاں مصروف عبادت ہو؟“ وہ عرض گزار ہوا کہ ”حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہاں ہوں“۔ حساب لگایا گیا تو دو ہزار چار صد سال گزر چکے تھے۔ لیکن اس کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا۔ جب اس کی خوراک کے بارے میں پوچھا گیا تو کہنے لگا ”ایک پرندہ جس کا سر انسان کی طرح ہے وہ کوئی زردی چیز لاتا ہے مجھے اس میں دنیا کی ہر چیز کا لطف نصیب ہوتا ہے اور بھوک، پیاس، گرمی، سردی، نیند، غفلت، وحشت میرے قریب تک نہیں آتی“۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت مرحمت فرمائی اور وہ اپنے گنبد میں اسی طرح عبادت سے سرشار ہونے لگا۔

اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں اپنے موسیٰ کا ساتھی بنا دے

ایک بار اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی: الھی ادنی جلیسی فی الجنة ”اے مالک و مولیٰ! تو دنیا میں مجھے میرے جنت کے ساتھی سے ملا دے۔“

اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم فلاں شہر کے فلاں بازار میں چلے جاؤ وہاں ایک قصاب ہے جس کا چہرہ مہرہ اس طرح کا ہے وہی تیرا رفیق جنت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصاب کی دکان پہ تشریف لے گئے اور وہیں شام تک رہے، دن

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ڈوبنے کے بعد قصاب گوشت کا ایک ٹکڑا تھیلے میں لے کر چلا تو اس کی دعوت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے گھر تشریف لے گئے اس شخص نے عمدہ قسم کا گوشت پکایا پھر گھر کے اندر سے ایک تھیلا نکالا اس میں ایک کمزوری بڑھیا تھی، وہ اتنی نحیف اور دہلی تھی جیسے کبوتر کا بچہ ہو، اس کو تھیلے سے نکال کر چمچے سے کھانا کھلایا، وہ شکم سیر ہو گئی تو اس نے بڑھیا کے کپڑے دھوئے اسے سوکھا کر پہنایا، پھر تھیلے میں رکھ دیا۔ اب بڑھیا نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ یہ دعا کر رہی تھی:

اللهم اجعل ابني جليس موسى في الجنة
”اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نشین بنا دے۔“

پھر اس شخص نے بڑھیا کے تھیلے کو ایک کھمبے میں لٹکا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تو نے یہ کیا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، یہ میری ماں ہیں جو انتہائی لاغر و کمزور ہو چکی ہے یہاں تک کہ اس میں بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں۔

فقال موسى عليه السلام لك البشارة، انا موسى، وانت جليسي في الجنة۔ (درة الناصحين ص ۴۹)

”حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے خوشخبری ہو، میں موسیٰ ہوں اور تو میرا رفیق جنت ہے۔“

رات بھر ننھے کی خاطر جاگتی رہتی ہے کون؟
ہر مصیبت خندہ پیشانی سے پھر سہتی ہے کون؟
چاند میرا، لعل میرا، روز و شب کہتی ہے کون؟
گھر سے رخصت کر کے تجھ کو منتظر رہتی ہے کون؟

یاد کر عہد طفولیت کے احسانات کو
آجگہ دیں اپنے سر آنکھوں پہ امہات کو
والدین اور بالخصوص ماں کی نافرمانی کے نتیجے میں دنیا و آخرت کے اندر کس
قدر دردناک حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے اس بارے میں چند واقعات سپرد قلم
کئے جا رہے ہیں۔ اے ماں باپ کے نافرمان سے شاید کہ تیرے دل میں اتر
جائے میری بات

حضرت جریر کی کہانی محبوب خدا کی زبانی

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ انہ قال کان جریر یتعبد فی
صومعة فجاءت امہ قال حبید فوصف لنا ابو رافع صفة ابی
ہریرۃ لصفة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ حین
دعتہ کیف جعلت کفہا فوق حاجبہا ثم رفعت راسہا الیہ
تدعوه فقالت یا جریر انا امک کلنی فصادفتہ یصلی فقال
اللہم امی وصلاتی فاختر صلواتہ فرجعت ثم عادت فی
الثانیۃ فقالت یا جریر انا امک فکلنی قال اللہم امی
وصلاتی فاختر صلواتہ فقالت اللہم ان ہذا جریر وهو بنی
وانی کلنتہ فابی ان یکلنی اللہم فلا تبتہ حتی تریہ
الیومسات قال ولودعت علیہ ان یفتن ففتن قال وکان
راعی ضان یهدی الی دیرہ قال فخرجت امرأۃ من القریۃ
فوق علیہا الراعی فحملت فولدت غلاما فقیل لها ما
ہذا؟ قالت من صاحب ہذا الدير قال فجاءوا بقؤسہم
ومساحیہم فنادوہ فصادفوہ یصلی فلم یکلہم قال فاخذوا

[Click For More Books](#)

يهدمون ديرة فلما رأى ذلك نزل اليهم فقالوا له سل هذه
قال فتبسم ثم مسح رأس الصبي فقال من ابوك قال ابي
راعى الضان فلما سمعوا ذلك منه قالوا نبني ما هدمنا من
ديرك بالذهب والفضة قال لا ولكن اعيدوه ترابا كما كان
ثم علاه. (مسلم شريف ج ۲ ص ۲۱۳، ۲۱۴ باب تقديم بر الوالدین علی

التطوع بالصلوة وغيرها)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جرتج اپنے معبد
میں عبادت کر رہے تھے اتنے میں ان کی ماں آئی۔ حمید کہتے ہیں کہ
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کی اس طرح صفت بیان کی
جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صفت بیان کی تھی۔
جب ان کی ماں نے انہیں بلایا تو انہوں نے کس طرح اپنی ہتھیلی اپنی
بھووں پر رکھی تھی۔ پھر اس کی طرف سر اٹھا کر اس کو آواز دی اور کہا
اے جرتج! میں تمہاری ماں ہوں تم مجھ سے بات کرو۔ جرتج اس وقت
نماز پڑھ رہے تھے۔ جرتج نے دل میں کہا اے اللہ! ایک طرف میری
ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے۔ پھر انہوں نے نماز کو اختیار کر لیا۔
ماں واپس لوٹ گئی۔ پھر دوبارہ آئی اور کہا اے جرتج! میں تمہاری ماں
ہوں، مجھ سے بات کرو۔ جرتج نے دل میں کہا اے اللہ! ایک طرف
میری ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے۔ پھر انہوں نے نماز کو اختیار
کیا۔ ان کی ماں نے کہا اے اللہ! یہ جرتج میرا بیٹا ہے میں اس سے
بات کرتی ہوں اور یہ انکار کرتا ہے اے اللہ! اس کو اس وقت تک
موت نہ دینا جب تک یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ آپ نے

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

فرمایا: اگر وہ یہ دعا کرتی کہ جرتج فتنہ میں پڑ جائے تو وہ فتنہ میں پڑ جاتا۔ آپ نے فرمایا ایک دنبوں کا چرواہا تھا جو جرتج کے معبد میں ٹھہرتا تھا، ایک دن بستی سے ایک عورت نکلی تو اس چرواہے نے اس کے ساتھ بدکاری کی وہ عورت حاملہ ہو گئی اور اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اس عورت سے پوچھا گیا یہ کس کا بچہ ہے؟ اس عورت نے کہا اس معبد والے کا بچہ ہے۔ لوگ اپنے پھاوڑے اور کلہاڑے لے کر آئے اور جرتج کو آواز دی۔ جرتج اس وقت نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے ان لوگوں سے بات نہیں کی۔ لوگوں نے اس معبد کو گرانا شروع کر دیا۔ جب جرتج نے یہ معاملہ دیکھا تو ان کے پاس اتر کر آئے۔ لوگوں نے ان سے کہا دیکھو یہ عورت کیا کہتی ہے؟ جرتج مسکرائے پھر انہوں نے اس بچہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا میرا باپ دنبوں کا چرواہا ہے۔ جب لوگوں نے یہ جواب سنا تو انہوں نے کہا ہم نے تمہارے معبد کو جو گرایا ہے اس کے عوض سونے اور چاندی کا معبد بنا دیتے ہیں۔ جرتج نے کہا نہیں تم اس کو پہلے کی طرح مٹی کا ہی بنا دو یہ کہہ کر وہ پھر اوپر چلے گئے۔

غور کیجئے! ایک ولی اللہ نے نفل نماز کے تحفظ کے لیے اپنی ماں کی خدمت میں حاضر نہ ہو کر ماں کی دل آزاری کی تو کس قدر بھیا نک سزا بھگتی اور اللہ تعالیٰ نے وہی سزا تجویز فرمائی جو اس کی ماں کے منہ سے نکلی تھی ورنہ کوئی دوسری سزا بھی دی جاسکتی تھی۔ اس لیے کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ سزا میرے کسی دوسرے گناہ کے سبب سے ہو سکتی ہے۔ کیا ہم آج والدین کی دل آزاری کے سلسلہ میں اس سے بڑے بڑے کام نہیں کر جاتے جن کاموں میں نفل عبادت کا تحفظ تو کیا کھلم

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

کھلا خدا اور رسول اور والدین کی نافرمانی ہوتی ہے۔

ہے قدموں تلے جس کے جنت وہ ماں ہے

محبت کے رنگوں میں سب سے حسین رنگ ماں ہے

اگر ماں کی دنیا میں عزت کرو گے

یہ سچی حقیقت ہے کہ تم خوش ہی رہو گے

یہ حکم خدا اور حکم نبی ہے

کتابوں میں اکثر یہی تم پڑھو گے

ماں کی خدمت کرنے میں بخل کرنے والوں کو سزا۔

سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک تاجر کی ماں نے اس

سے خرچہ مانگا مگر اس نے بیوی کے کہنے پر ماں کو خرچہ دینے سے انکار کر دیا، ماں

بے چاری روتی ہوئی تاجر بیٹے کے گھر سے خالی ہاتھ واپس چلی گئی، ایک دفعہ یہی

تاجر تجارت کے سلسلہ میں کہیں جا رہا تھا کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر کے سارا مال و

اسباب لوٹ لیا اور تاجر کا ہاتھ کاٹ کر اس کی گردن کے ساتھ لٹکا دیا۔ (کیونکہ اس

نے اپنی ماں کو خرچہ دینے سے ہاتھ روک لیا تھا، قدرت نے جرم کے مطابق اس کو

سزا دی اور گردن کے ساتھ لٹکوا دیا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو) راستے میں جو بھی اس کو

دیکھتا تو تاجر کی طرف سے اس کو جواب ملتا۔

هذا جزائی فلو کنت اعطیت امی یدی درہما ما قطعت

یدی وما سلبت مالی۔

یہ سزا مجھے اس لیے ملی ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کو ایک درہم

نہ دے سکا (لہذا میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور میرا مال چھین لیا گیا) اگر

میں ماں کے ساتھ ایسا نہ کرتا تو میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

پھر اس نے اپنی ماں سے معافی مانگی ماں نے کہا یا بنی انی رضیت عنک،
اے میرے پیارے بچے میں تجھ سے راضی ہوں۔ چنانچہ رات کو قدرت خداوندی
سے اس کا ہاتھ بالکل پہلے کی طرح تندرست ہو گیا۔

(درۃ الناصحین فی الوعظ الارشاد ص ۲۳۰)

خدا کی خدائی میں سب سے جدا ہے جو یہ روٹھ جائے تو روٹھے خدا ہے
یہ تحفہ ہے قدرت کا درس وفا ہے یہ شب کے اندھیروں میں جلتا دیا ہے
کبھی مجھ کو گھیرا جو رنج و الم نے
میرے واسطے ماں بن گئی دعا ہے

ماں کی نافرمانی میں کعبہ کو جانے والے بزرگ کا حال

ایک بزرگ نے مکہ معظمہ جانے کا ارادہ کیا۔ ان کی ایک ماں تھیں جو ان کے
مکہ جانے پر خوش نہ تھیں، یہ بزرگ منت و سماجت کے باوجود انہیں راضی نہ کر سکے
اور مکہ شریف کے لئے روانہ ہو گئے ادھر ان کی ماں نے بارگاہِ الہی میں گریہ و زاری
کے ساتھ دعا کی کہ پروردگار عالم! میرے بیٹے نے مجھے جدائی کی آگ میں جلایا
ہے تو اس پر کوئی عذاب نازل فرمادے۔

یہ بزرگ رات کے وقت ایک شہر میں پہنچے تو عبادت کے لئے مسجد میں
تشریف لے گئے، عجیب اتفاق! اسی رات ایک چور کسی کے گھر میں داخل ہوا،
مالک مکان کو جب چور کے آنے کا علم ہوا تو وہ چور کے پیچھے بھاگا اور چور جلدی
سے مسجد کی طرف بھاگا، لوگوں نے چور کا پیچھا کیا تو چور مسجد کے دروازے کے
پاس آکر غائب ہو گیا۔ لوگ یہ سمجھ کر کہ وہ مسجد میں ہی گیا ہے اندر چلے گئے۔
وہاں دیکھا کہ یہی بزرگ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، انہیں پکڑ کر حاکم شہر کے
پاس لے گئے۔ حاکم نے ان کے ہاتھ پیز کاٹنے اور آنکھوں کے نکالنے کا فرمان

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

صادر کیا تو لوگوں نے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیئے، آنکھیں نکال دیں اور شہر میں اعلان کر دیا کہ یہ چور کی سزا ہے۔ بزرگ نے فرمایا:

لا تقولوا ذلك، بل قولوا هذا جزء من قصد طواف مكة

بلا اذن امه۔

”یہ مت کہو کہ چور کی سزا ہے، بلکہ یہ کہو کہ یہ ماں کی اجازت کے بغیر

طوافِ کعبہ کا ارادہ کر نیوالے کی سزا ہے۔“

جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو ایک بزرگ ہیں اور ان کے حال سے

واقف ہوئے تو رونے لگے اور انہیں ان کے عبادت خانے کے پاس لا کر چھوڑ

گئے۔ ان کا تو یہ حال ہے، ادھر ان کی ماں اسی عبادت خانے کے اندر یہ دعا کر

رہی تھیں۔

يا رب ان ابتليت ابني ببلاء اعدها الی حتی اراه۔

”اے پروردگار! اگر تو نے میرے بیٹے کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا

ہے تو اسے میرے پاس لوٹا دے تاکہ میں اسے دیکھ لوں۔“

ماں تو اندر یہ دعا مانگ رہی ہے اور بیٹا دروازے پر یہ صدا دے رہا ہے: میں

ایک بھوکا مسافر ہوں، مجھے کھانا کھلائیے (نہ بیٹا کو معلوم کہ اپنے ہی دروازے پر

صدا دے رہا ہے، نہ ماں کو پتہ کہ یہ بھوکا مسافر میرا ہی بیٹا ہے) ماں نے کہا

دروازے کے پاس آؤ، مسافر نے کہا میرے پاس پیر نہیں ہیں میں کیسے آؤں۔

ماں نے کہا ہاتھ بڑھاؤ، مسافر نے کہا میرے پاس ہاتھ بھی نہیں۔ ماں اب تک

انہیں پہچان نہ سکی تھی اور بولی: اگر سامنے آکر میں تجھے کھانا کھلاؤں تو میرے اور

تیرے درمیان حرمت قائم ہو جائیگی۔ (یعنی تو مجھے دیکھ لے گا جو کہ منع ہے) یہ

بولے آپ اس کا بھی اندیشہ نہ کریں میں نگاہوں سے محروم ہوں۔ تو ماں ایک روٹی

اور کوزے میں ٹھنڈا پانی لے کر آئی اور اسے کھلایا، پلایا مگر پھر بھی پہچان نہ سکی، البتہ مسافر نے پہچان لیا، اس نے اپنا چہرہ ماں کے قدموں میں رکھ کر عرض کیا:

انا ابنك العاصی

”اے مہرباں ماں! میں آپ کا نافرمان بیٹا ہوں۔“

اب ماں بھی پہچان گئی اور بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر سینے کے اندر اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور زبان کی راہ سے اس کے دل سے یہ صدا بلند ہوئی۔

یا رب اذا كانت الحاله كذلك فاقبض روحي و روحه حتی

لا یرى الناس سواد وجهنا۔

”اے پروردگار! جب حال اتنا برا ہو گیا ہے تو میری اور میرے فرزند

کی روح کو قبض فرما لے تاکہ لوگوں کے سامنے ہم روسیاء و شرمندہ نہ

ہوں۔“

ابھی یہ دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ماں بیٹا دونوں فوت ہو گئے۔

(درۃ الناصحین فی الوعظ والارشاد ص ۲۳۰ ترجمہ مفتی نظام الدین رضوی)

ہے سانسوں میں جس کی بہاروں کی خوشبو

وہ ماں کے سوا دوسرا کون ہے؟

کبھی چاندنی ہے کبھی کہکشاں

ہے ماں ہی محبت کا سارا جہاں

کبھی خود ہے منزل کبھی کارواں

کبھی تشنگی میں وہ آبِ رواں

بگھٹن جب بڑھی تو ہوا بن گئی ہے

محبت میں سارا جہاں بن گئی ہے

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ماں کو گدھی کہہ کر پکارنے والا خود گدھا بن گیا

حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ کچھ مسافروں نے ایک بیابان میں پڑا اوڈالا تو وہ رات بھر مسلسل گدھے کے چیخنے کی آوازیں سنتے رہے، اس کے باعث انہیں رات بھر نیند نہیں آئی، صبح کے وقت وہ لوگ گدھے کو دیکھنے چلے تو ایک خیمے کے پاس پہنچے اس میں ایک بڑھیا تھی، مسافروں نے اس سے پوچھا کہ ہم لوگ رات بھر گدھے کے چیخنے سے جاگتے ہی رہ گئے اور ہمیں تیرے پاس کوئی گدھا نہیں دکھائی دیتا؟ بڑھیا نے کہا وہ ”گدھا“ دراصل میرا بیٹا ہے وہ مجھے گدھی گدھی کہہ کر پکارا کرتا تھا تو ایک دفعہ میں نے خدائے قدیر سے دعا کی اے پروردگار! تو اس نالائق کو گدھا ہی بنا دے، اس داورس نے میری فریاد سن لی، اب یہ ہر رات صبح تک گدھے کی طرح چیختا رہتا ہے۔ مسافروں نے کہا! ہمیں اس کے پاس لے چلو تا کہ ہم بھی اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ بڑھیا انہیں اس کے پاس لے گئی وہ ایک قبر میں پڑا تھا اور اس کی گردن گدھے کی طرح ہو گئی تھی۔

(قلیوبی ص ۲۶)

صاحب نزہۃ المجالس علامہ عبدالرحمن صفوری علیہ الرحمۃ نے بروایت بعض تابعین ترغیب و ترہیب کے حوالے سے بھی اس روایت کو تھوڑے سے فرق کے ساتھ لکھا ہے اس میں ہے کہ یہ نوجوان شراب پی کر گدھے کی طرح آواز نکالتا تھا اور اس کی ماں اس کو اس فعل بد سے منع کرتی تھی لیکن وہ باز نہ آتا اور اب اس وجہ سے روزانہ عصر کے بعد اس کی قبر پھٹ جاتی ہے اور وہ قبر سے نکل کر تین مرتبہ گدھے کی سی آواز نکالتا ہے۔ (العیاذ باللہ، استغفر اللہ، لاحول ولا قوۃ الا باللہ)

جس کے قدموں کے نشاں ہیں کہکشاں اور کہکشاں

جس کی رفعت اور بلندی آسماں در آسماں

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ماں ہے جس کی گود میں ہیں کھیلتے قطب و امام
ماں کے قدموں میں ہے جنت ماں کے قدموں کو سلام

زبان پہ کلمہ کیوں نہیں جاری ہو رہا؟

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ ایک جوان موت و حیات کی کشمکش اور جانکنی کے حال میں ہے، اسے تلقین کی گئی کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے مگر نہ پڑھ سکا سرکار نے پوچھا کیا وہ نماز پڑھتا تھا؟ تو عرض کیا ہاں یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو ساتھ ہی ہم لوگ بھی کھڑے ہو گئے۔ آپ اس جوان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ بولا لا الہ الا اللہ وہ بولا! یہ کلمہ پڑھنے کی طاقت میری زبان میں نہیں، میں اس سے عاجز ہوں۔ سرکار نے اس کی وجہ پوچھی، تو اس نے خود ہی بتایا کہ وہ اپنی والدہ ماجدہ کی نافرمانی کرتا تھا۔ تو سرکار نے پوچھا کیا اس کی والدہ زندہ ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا ہاں زندہ ہے۔ تو آپ نے فوراً اس کی والدہ کو طلب کیا، وہ حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ وہ بولی ہاں:

فقال ارأیت لو اجبت نارضخبة فقیل لك ان شفعت له

خلینا عنہ والا حرقناه بھذہ النار اکت تشفعین له؟

”تو آپ نے فرمایا بتاؤ اگر خوب زیادہ آگ بھڑکا دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ تم اپنے بیٹے کی سفارش کرو تو ہم اسے چھوڑ دیں گے ورنہ اسی آگ میں اسے جلا ڈالیں گے تو کیا تم اپنے بیٹے کی سفارش کرو گی؟“

(ماں بہر حال ماں ہوتی ہے، اس کا دل اپنی اولاد کے لئے رحم و کرم کا پیکر

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ہوتا ہے وہ بیٹے کی نافرمانی و ایذا رسانی تو برداشت کر سکتی ہے مگر اسے کبھی یہ گوارہ نہ ہوگا کہ اس کا لال اس کے سامنے آگ کے دہکتے ہوئے انگوروں میں جلایا جائے۔ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کے تیور سے ہی اس خاتون نے اچھی طرح محسوس کر لیا کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ سمجھ گئی کہ میرا بیٹا دنیا کی آگ میں نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اذیت ناک جہنم کی آگ میں میری وجہ سے جلایا جائے گا) وہ فوراً پکار اٹھی:

یا رسول اللہ اذا اشفع

”اے اللہ کے رسول! اب تو میں سفارش کروں گی۔“

سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس پر اللہ عزوجل کو اور مجھے گواہ بناؤ کہ تم اس جوان سے خوش ہو وہ بولی اے پروردگار! میں تجھے اور تیرے رسول کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے لخت جگر سے راضی ہوں۔ پھر رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان سے خطاب کر کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس نے اس دفعہ پورا کلمہ طیبہ پڑھ دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائے ذوالجلال کا شکر ادا کیا۔

الحمد لله الذي انقذه من النار

”اللہ عزوجل کا شکر ہے کہ اس نے اس جوان کو جہنم سے بچالیا۔“

(فتاویٰ رضویہ ج ۱۰ ص ۵۸ مختصراً بحوالہ احمد و طبرانی)

درة الناصحين میں اس سے ملتا جلتا واقعہ حضرت عبداللہ بن سلام کا بھی لکھا گیا ہے جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

يا معشر المسلمين الامن كانت له والدة لم يبرها خرج من

الدنيا على غير الشهادة.

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اے اہل اسلام سن لو! جو شخص اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک نہیں
کرنے گا اس کو کلمہ شہادت پڑھنا نصیب نہ ہوگا۔

ہے آغوش ایسی تھکن مٹ گئی ہے
تھی ماتھے پہ بکھری شکن مٹ گئی ہے
سفر کے جو کاٹے میرے پاؤں میں تھے
تیرے پاس آ کے چھن مٹ گئی ہے

ماں کی ممتا

صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ دو عورتیں اپنے اپنے بچے کو اٹھا
کر جا رہی تھیں کہ ایک بھیڑیے نے ان پر حملہ کر دیا اور ایک عورت کے بچے کو
لے کر بھاگ گیا، جو بچہ بچ گیا دونوں عورتیں اس کے بارے میں جھگڑا کرنے
لگیں اور ہر ایک دعویٰ کرنے لگی کہ بچہ جانے والا بچہ میرا ہے، یہ مقدمہ حضرت
داؤد علی نبینا وعلیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا تو آپ نے بڑی عورت کے حق
میں فیصلہ دیتے ہوئے بچہ اس کے سپرد کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ
منظر دیکھ کر فرمایا: چھری لاؤ تاکہ اس بچے کے دو ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا
دونوں کو دے دیا جائے۔ یہ بات سن کر حقیقی ماں پکار اٹھی اے اللہ کے نبی
ٹکڑے نہ کیجئے پورا ہی بچہ اس کے حوالے کر دیجئے چنانچہ آپ نے وہ بچہ اس
(حقیقی ماں) کے حوالے کر دیا کیونکہ ٹکڑے کرنے سے منع کرنے والی ہی
دراصل زندہ بچ جانے والے بچے کی حقیقی ماں تھی۔ (اور ماں بھلا اپنی آنکھوں
کے سامنے اپنے بیٹے کے ٹکڑے ہوتے کب دیکھ سکتی تھی، جبکہ دوسری عورت نے
بچے کے ٹکڑے کرنے پر رضا مندی ظاہر کر دی۔)

(بخاری ج ۱ ص ۷۸۷ ملخصاً)

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

والدہ شفقت کی دیوی والدہ الفت کی جاں
بہر پفلاں جنت الفردوس زیر آسماں
بے زباں بچے کے حق میں آیہ رحمت ہے یہ
پوچھے بچے سے اک بے بدل نعمت ہے یہ
والدہ از آفرینش تا قیامت با وفا
کشتی اولاد کا سمجھو اسے تم ناخدا
اس کی شفقت کے پیاسے اولیاء و اتقیاء
حسنہ انبیاء، مخدومہ اہل صفا
والدہ تیری عنایت کا یہ دل ممنون ہے
بلکہ میرے جسم کا ہر رونگٹا مرہون ہے

ماں نے معاف کیا تو خدا بھی راضی ہو گیا

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا۔ جب تو ریت شریف پڑھتا تو خوش آوازی کی وجہ سے مرد اور عورتیں سبھی سننے کے لئے گھروں سے باہر نکل آتے یہ جوان شراب بھی پیا کرتا تھا۔ ایک روز اس کی ماں اسے کہتے لگی اگر بنی اسرائیل کے نیکوں کو پتہ چل گیا کہ تو شراب پیتا ہے تو وہ تجھے اپنے پڑوس سے نکال دیں گے۔ ایک دفعہ ایک شب وہ شراب کے نشہ میں گھر آیا اور تو رات شریف پڑھنے لگا تو لوگ جمع ہو گئے۔ اس کی ماں نے اس سے کہا اٹھ وضو کر۔ نشہ کی حالت میں اس نے ماں کے چہرہ پر مارا جس سے اس کی ایک آنکھ نکل گئی اور ایک دانت ٹوٹ گیا۔ وہ کہنے لگی خدا تجھ سے کبھی راضی نہ ہو۔ جب صبح ہوئی اور اس نے اپنی ماں کو دیکھا تو کہنے لگا اے ماں! میں تجھے سلام کرتا ہوں اور اب سے قیامت تک تجھے کبھی نہ دیکھوں گا۔ اس نے جواب دیا

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

خدا تجھ سے راضی نہ ہو چاہے جہاں مرضی جا۔ وہ پہاڑ میں جا کر خدا کی عبادت میں مشغول ہو گیا اور چالیس برس تک عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ بہت ضعیف اور کمزور ہو گیا۔ پھر اس نے بارگاہ ایزدی میں عرض کی کہ اے مولا کریم! اگر تو نے مجھے بخش دیا ہے تو مجھے بتا دے۔ ہاتھ غیبی سے آواز آئی تیری ماں کی رضا مندی میں ہماری رضا ہے۔ یہ سن کر وہ واپس گیا اور اس نے پکار کر کہا اے جنت کی چابی! اگر تو بقید حیات ہے تو نہایت خوشی ہے اور اگر تو فوت ہو چکی ہے تو میرے لیے مصیبت ہے۔ اس کی والدہ نے پوچھا: یہ کون ہے؟ اس نے کہا میں تیرا بیٹا ہوں۔ ماں نے کہا خدا تجھ سے راضی نہ ہو۔ اس نے آگے بڑھ کر ماں سے کہا اے ماں یہی وہ ہاتھ ہے جس نے تجھے مازا تیری آنکھ نکالی اور تیرا دانت توڑا تھا اور اس ہاتھ کو کاٹ ڈالا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے لیے لکڑیاں جمع کرو اور آگ جلاؤ۔ انہوں نے لکڑیاں جمع کیں اور آگ جلائی وہ اس میں کود پڑا اور اپنے بدن سے مخاطب ہو کر کہنے لگا آتش دوزخ سے پہلے آتش دنیا کا مزہ چکھ لے۔ یہ خبر لوگوں نے اس کی ماں کو دی۔ اس نے آواز دی اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک! تو کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا آگ کے اندر۔ تب وہ کہنے لگی اے بیٹا خدا تعالیٰ تجھ سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ہوا۔ انہوں نے اپنا ایک پر اس کی ماں کی آنکھ اور دانت پر مل دیا، اس کی آنکھ اور دانت دونوں جیسے (پہلے) تھے ویسے ہی (درست) ہو گئے پھر اس لڑکے کے جسم پر بھی مل دیا وہ بھی اللہ کے حکم سے جیسا پہلے (تندرست) تھا ویسا ہی ہو گیا۔

(نزہۃ المجالس ج ۱ ص ۲۰۳)

رحمتِ دوراں مجسم بن کے کوئی آگئی
جس کی شفقت دیکھ کر ہوش و خرد شرماگئی

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

رونے والے کو ادھر آئی ادھر بہلا گئی
کیوں نہ ہو اس کی ادا سے اس کا مقصد پا گئی
ایک دم میں اس کی غوں غاں کو سمجھ لیتی ہے یہ
کون دیوانی ہے ہر دم لوزیاں دیتی ہے یہ

ماں کے تابعدار کی بادلوں پہ حکومت

حضرت موسیٰ علیہ السلام انطاکیہ سے شام کا ارادہ کر کے باہر نکلے۔ چلتے چلتے
تھک گئے تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی میرے کلیم اس پہاڑ کی وادی میں اکناف و
اطراف سے آئے ہوئے لوگ موجود ہیں۔ ان میں میرا ایک خاص بندہ بھی ہے
اس سے سواری طلب کر۔ آپ نے اسے نماز پڑھتے دیکھا۔ جب وہ فارغ ہوا تو
آپ نے کہا: اے بندہ خدا! مجھے سواری چاہیے۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہ
اٹھائی تو بادل کا ایک ٹکڑا آتا دکھائی دیا۔ اس نے کہا نیچے آ اور اس انسان کو جہاں
چاہتا ہے پہنچا دے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر سوار ہوئے اور چل
دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے کلیم! تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مرتبہ اسے
کیسے حاصل ہوا؟ تو سن لے! میں نے یہ مرتبہ اسے ماں کی خدمت کے صلہ میں دیا
ہے اور وہ اس طرح کہ اس کی ماں نے بوقت اجل دعا مانگی تھی، الہی! اس نے
میری ضروریات کا خیال رکھا اس لیے تیرے حضور میزبانی دعا ہے کہ تجھ سے یہ جو
بھی طلب کرے عطا فرمانا! تو اے موسیٰ! اگر یہ مجھ سے آسمان کو زمین پر الٹ
دینے کی بھی درخواست کرے گا تو بھی میں منظور کر لوں گا۔

(ایضاح ص ۲۰۰)

بستی انسان کی شام و سحر ہے پاسان
جذبہ ایثار و قربانی کی رنگیں داستان

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

سورہ یوسف اگر اک نالہ یعقوب ہے
چاہ زمزم والدہ کے عشق سے منسوب ہے

ماں کی نیک نیتی کا اجر

قوم بنی اسرائیل میں ایک شادی شدہ آدمی تھا جس کی ماں اور ساس دونوں زندہ اور نابینا تھیں۔ وہ شخص اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا تھا اس کی ماں بہت نیک سیرت عورت تھی جبکہ ساس بد خو عورت تھی اور اپنی بیٹی کو داماد کے خلاف بھڑکاتی تھی۔ ایک دن وہ شخص اپنی ماں کو بیوی کی خاطر بے آب و دانہ جنگل میں اکیلا چھوڑ آیا۔ بڑھیا بیچاری اکیلی جنگل میں ٹھوکریں کھانے لگی۔ درندے اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ اتنے میں ایک فرشتہ اس کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، یہ کیسی آوازیں ہیں جو تیرے چاروں طرف سنائی دے رہی ہیں؟ اس نے جواب دیا اچھی آوازیں ہیں گائے بکری اونٹ کی آوازیں ہیں۔ اس نے کہا اچھا انشاء اللہ ایسا ہی ہو جائے گا۔ فرشتہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ جب اگلا دن ہوا تو میدان اونٹوں بکریوں اور گایوں سے بھر گیا۔ ادھر بیٹے کے دل میں خیال آیا کہ دیکھوں ماں کس حال میں ہے۔ چنانچہ جب وہ آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ سارا میدان اونٹوں، بکریوں اور گایوں سے بھرا پڑا ہے۔ اپنی ماں سے پوچھنے لگا ماں! یہ کیا ہے؟ ماں نے کہا تو نے تو مجھے ہتایا تھا اور بیوی کے کہنے پر مجھے یہاں چھوڑ گیا بہر حال میں تو ماں ہی ہوں۔ لڑکا بڑا نادام ہوا۔

اس کے بعد وہ اپنی ماں کو اٹھا کر لے گیا اور جو کچھ خدا نے دیا تھا سب کچھ ہنکا کر بمعہ اپنی ماں کے بیوی کے پاس پہنچا اس کی بیوی کہنے لگی میں ہرگز نہ مانوں گی جب تک میری والدہ کو بھی وہاں چھوڑ کر نہ آؤ گے۔ جہاں اپنی ماں کو چھوڑ کر آئے تھے۔ چنانچہ وہ اس کو بھی وہاں لے گیا۔ جب شام ہوئی تو درندوں نے

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اسے آگھیرا اور وہی فرشتہ جو اس شخص کی ماں کے پاس آیا تھا پھر آیا اور کہنے لگا اے بڑھیا مائی یہ کیسی آوازیں ہیں۔ وہ کہنے لگی یہ درندوں کی آوازیں ہیں یہ مجھے کھا جائیں گے اس فرشتے نے کہا ایسا ہی ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا اور ایک درندہ اسے کھا گیا جب صبح ہوئی تو اس کی بیوی نے کہا جاؤ ذرا دیکھو تو میری ماں کا کیا حال ہوا۔ وہ گیا تو وہاں جو کچھ درندے کھا کر چھوڑ گئے تھے اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ اس شخص نے اپنی بیوی کو اس کی ماں کی ہڈیاں لا کر دیں۔ جو نبی اس نے اپنی ماں کا برا حشر دیکھا تو غم کے مارے مر گئی۔ (ایضاح ص ۱۹۹)

یاد رہے: امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام سے مروی ہے ”ساری عجیب باتیں بنی اسرائیل میں ہوئی ہیں (عبرت کے لئے) ان کو بیان کیا کرو اس میں کوئی حرج نہیں۔“

کون چھاتی سے لگاتی تھی مجھے شام و سحر؟
کس کی آنکھوں پہ رہتی تھی فقط مجھ پر نظر؟
زندگی میری ہے یہ کس کی دعاؤں کا اثر؟
کون کہتی تھی مجھے لخت، جگر نور نظر؟

بقرة قرآں اور خدمت گزار ماں

سورہ بقرہ میں جس انوکھی گائے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ سخت پیلے رنگ کی جو دیکھنے والوں کو فرحت و سرور دیتی ہے۔ جس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارا گیا تو اس نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا۔ یہ دراصل بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص کی گائے تھی، جس شخص کا ایک ننھا سا کم عمر بچہ تھا اور اس گائے کے علاوہ کوئی دوسرا مال اس کے پاس نہ تھا، جب اس شخص کے وصال کا وقت قریب آیا تو اس نے یہ کہہ کر اس گائے کو جنگل میں چھوڑ دیا۔

[Click For More Books](#)

اللهم انى استودعك هذه العجلة لابنى حتى يكبر

”اے اللہ یہ بچھیا تیرے سپرد ہے یہاں تک کہ میرا بیٹا جوان (ہو کر اس کو سنبھالنے کے قابل) ہو جائے۔“

چنانچہ اس شخص کا وصال ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں وہ گائے پروان چڑھتی رہی، ادھر بچہ جوان ہو گیا اور ادھر بچھیا گائے بن گئی۔ نوجوان اپنی والدہ کا اس قدر خدمت گزار تھا کہ اس نے دن تو دن ہر رات کے بھی تین حصے کر لیے ایک حصہ عبادت کے لیے، ایک آرام کے لیے اور ایک ماں کی خدمت کے لیے۔ اسی طرح سارا دن جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کرتا رہتا اور بازار میں بیچ کر تہائی رقم راہ خدا میں خرچ کر دیتا، تہائی سے گھر کا خرچہ چلاتا اور تہائی رقم اپنی ماں کی نذر کر دیتا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا! تیرے باپ نے فلاں جنگل میں ایک بچھیا تیرے لیے خدا کے سپرد کی تھی تو اس جنگل میں جا کر آواز دے تو اللہ تعالیٰ تیرا مال تیرے حوالے کر دے گا اور وہ گائے ایسی ہوگی کہ اس کی کھال سے گویا سورج کی کرن پھوٹ رہی ہوں گی۔ چنانچہ لڑکا جنگل میں گیا اس نے آواز دی، گائے حاضر ہو گئی اور بحکم خدا بول کر کہنے لگی:

ایہا الفتی البار بنامہ ارکبنی فانہ اہون علیک۔

”اے اپنی ماں کی خدمت کرنے والے جوان مجھ پر سوار ہو جا یہ کام تیرے لیے آسان ہے۔“

نوجوان نے انکار کرتے ہوئے کہا!

ان امی لم تا صرنی بذلک۔

”میری ماں نے مجھے تجھ پر سوار ہونے کا حکم نہیں دیا۔“

اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ گائے بولی

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

والله لو ر كبتنى ما كنت تقدر على ابداء، فانطلق فانك لو

امرت الجبل ان ينقلع من اصله لا نقلع ببرك باملك۔

”اللہ کی قسم! اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو کبھی مجھ پر قابو نہ پاسکتا، اب تم

اگر پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹ جانے کا حکم دو گے تو ماں کی تابعداری

کی وجہ سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔“

جب یہ نوجوان گائے لے کر اپنی والدہ کے پاس آیا تو والدہ نے کہا تم ایک

ضرورت مند شخص ہو لہذا یہ گائے تین دینار کی بازار میں بیچ آؤ۔ کیونکہ اس وقت

گائے کی اتنی ہی قیمت تھی اور والدہ نے یہ بھی کہا کہ جب قیمت طے ہو جائے تو

پھر مجھ سے اجازت لے لینا۔ چنانچہ نوجوان گائے کو منڈی میں لے گیا تو اللہ تعالیٰ

نے بطور امتحان ایک فرشتہ بشکل انسانی بھیجا جس نے گائے کی قیمت چھ دینار لگائی

اور ساتھ یہ شرط لگائی کہ والدہ کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ نوجوان نے کہا!

اگر تو سونے کے برابر بھی گائے خرید لے گا تب بھی والدہ کی اجازت کے بغیر نہ

بیچوں گا۔ چنانچہ نوجوان والدہ کے پاس گیا تو والدہ نے چھ دینار میں بیچنے کی

اجازت دیتے ہوئے کہا۔ سو دا طے ہو جائے تو پھر مجھ سے اجازت لے لینا۔ وہی

فرشتہ دوبارہ ملا اور کہا! بارہ دینار لے لو اور والدہ کی اجازت رہنے دو، نوجوان پھر

نہ مانا اور ماں کی خدمت میں حاضر ہو کر ماجرا عرض کیا، ماں سمجھ گئی یہ سارا کچھ اللہ

کی طرف سے ہے۔ فرمایا اس بار اس خریدار سے پوچھ لینا کہ کیا مجھے یہ گائے بیچنی

چاہیے کہ نہیں؟ نوجوان گیا، وہی خریدار ملا، نوجوان نے اس سے سوال کیا کہ یہ

گائے ہمیں بیچنی چاہیے یا نہیں؟ خریدار نے کہا! ابھی اس کو نہ بیچو، بنی اسرائیل کو

اس گائے کی ضرورت پڑنے گی تو تم اس کی کھال بھر سونا قیمت طے کرنا وہ تم سے

خرید لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور والدہ کی تابعداری سے اس نوجوان کے

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

وارے نیارے ہو گئے۔

(باب التاویل فی معانی التزیل المعروف بالتفسیر الحازن، امام علاء الدین خازن بغدادی

شافعی ص ۱۳۹، ۱۴۰ ج ۱)

ماں جو سرتا پانمو ہے ماں ہے سرتا پان حیات
وہ کہ ہے اولاد اس کی کل جہان و کائنات
زندگی جس کی رگوں میں لے رہی ہے کروٹیں
جس کی ہر اک سانس میں ہیں جنتیں ہی جنتیں

ماں باپ کی خوشی و غمی

مستدرک للحاکم ج ۴ ص ۱۵۲ اور ص ۶ پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک روایت درج فرمائی ہے کہ ایک بندہ
حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا: میں آپ سے ہجرت
کی بیعت کرنے آیا ہوں اور میرے والدین میری جدائی کی وجہ سے رو رہے
ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا: جس طرح تو نے انہیں رلایا ہے اسی طرح جا کر
انہیں ہنسا۔

درمنثور ج ۴ ص ۱۷۲ پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہی روایت ہے کہ نبی
اکرم علیہ السلام نے ایک شخص سے فرمایا: والدین کے درمیان تیرا تخت پر سوئے
رہنا جبکہ تو ان کو ہنساتا ہو اور وہ تجھے ہنساتے ہوں اللہ کی راہ میں تلوار لے کر جہاد
کرنے سے افضل ہے۔

اولاد کو چاہیے کہ والدین کی خدمت و اطاعت مجبوری سمجھ کر نہ کرے، اسی
طرح اللہ ورسول کی اطاعت بھی خوشدلی سے کی جائے۔ اللہ ورسول کی اطاعت
سے ہی والدین کی اطاعت کی نعمت حاصل ہوتی ہے۔ اچھی اولاد وہی کہلاتی ہے

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

جو ان تمام اطاعتوں کو بجالاتی ہے، جو اولاد اپنے والدین کا کہا نہیں مانتی جب وہ صاحب اولاد ہوتے ہیں تو یہی مشکل ان کے سامنے بھی آتی ہے لہذا اگر اپنی اولاد کی طرف سے راحت و سکون حاصل کرنا چاہتے ہوں تو اپنے والدین کو آرام و سکون پہنچاؤ تاکہ آنے والا وقت تمہارے لیے اولاد کے حوالے سے بابرکت ثابت ہو۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے طریقت و تقویٰ کی بات کرتے ہیں لیکن والدین ان سے ناراض رہتے ہیں حالانکہ ماں باپ کی رضا میں ہی اللہ و رسول کی رضا ہے تو پھر یہ لوگ ماں باپ کو ناراض کر کے کس طرح اللہ و رسول کی رضا کو پاسکتے ہیں۔ جہاں والدین کی اطاعت و رضا مندی سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا نصیب ہوتی ہے وہاں رزق میں برکت، عبادت کی مقبولیت اور دنیا و آخرت کی بھلائی بھی نصیب ہوتی ہے، لہذا والدین کی کسی بات پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا اور ایک بڑی خوفناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس پر دو احادیث بمعہ ترجمہ ملاحظہ ہوں۔ (تعرف الاشیاء باضدادھا)

سید الملائکہ کی دعا پر سید الانبیاء کا آمین کہنا

عن کعب بن عجرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احضرو المنبر فحضرننا فلما ارتقى درجة قال امين فلما ارتقى الدرجة الثانية قال امين فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال امين فلما نزل قلنا يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئاً ما كنا نسمعه قال ان جبريل عرض لي فقال بعد من ادرك رمضان فلم يغفر له قلت امين! فلما رقيت الثانية قال بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك قلت امين فلما رقيت الثالثة قال بعد من ادرك ابويه الكبر او

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

احدها فلم يدخلها الجنة قلت امين-

(مستدرک للحاکم، ابن حبان عن ابی ہریرۃ، طبرانی عن ابن عباس، جلاء

الافہام، ص ۶، ص ۱۷، ص ۵۶، تبلیغی نصاب ص ۴۲۵، ۴۲۶، وقال رواہ

البخاری فی بر الوالدین)

”حضرت کعب بن عجزہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ قریب ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجہ پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین! جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین! جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین! جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے (منبر پر چڑھتے ہوئے) ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے (جب میں نے پہلے درجہ پر قدم رکھا) تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین! پھر جب میں دوسرے درجہ پر پہنچا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین! جب میں تیسرے درجہ پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں میں نے آمین کہا۔ (یعنی یہ بد نصیب ان کی خدمت نہ کر سکا)

Click For More Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

معلوم ہوا کہ ہمارے آقا علیہ السلام وہ کچھ دیکھتے سنتے ہیں جو دوسرے لوگ دیکھ سنبہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انی اری ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے اور میں وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ والدین کے نافرمان کے لئے جبریل امین (جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں) بددعا کرتے ہیں اور نبیوں کے سردار اس پر آمین کہتے ہیں تو پھر ایسے شخص کا بیڑا کیوں نہ غرق ہوگا۔

تین مسافروں کی کہانی

عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما ثلاثۃ نفر یتہا شون اخذہم البطر فبالوا الی غار فی الجبل فانحطت علی فم غارہم صخرة من الجبل فاطبقت علیہم فقال بعضهم لبعض انظروا اعلیٰ اعلتہا لہ صالحة فادعوا اللہ بہا لعلہ یفرجہا فقال احدہم اللہم انہ کان لی والدان شیخان کبیران ولی صبیہ صغار کنت ارفعی علیہم فاذا رحمت علیہم فحلبت بدأت بوالدی اسقیہا قبل ولدی وانہ نا بی الشجر فبا اتیت حتی امسیت فوجدتہا قد ناما فحلبت کما کنت احدث فحئت بالحلاب فقبت عند رؤسہا اکرہ ان اوقظہا من نومہا واکرہ ان ابدأ بالصبیۃ قبلہا والصبیۃ یتضاغون عند قد می فلم یزل ذلک دابی ودابہم حتی طلع الفجر فان کنت تعلم انی فعلت ذلک ابتغاء وجهک فافرج لنا فرجة نری منها السباء ففرج اللہ لہم فرجة حتی یرون منها

[Click For More Books](#)

السبأء وقال الثانی: اللهم انه كانت لی ابنة عم احبها
كاشدما یحب الرجال النساء فطلبت الیها نفسها فایت حتی
اتیها بنائة دینار فسعیت حتی جمعت مائة دینار فلقیتها بها
فلما قعدت بین رجلیها فقالت یا عبد الله اتق الله ولا تفتح
الخاتم فقلت عنها اللهم فان كنت تعلم انی قد فعلت ذلك
ابتغاء وجهك فافرج لنا منها ففرج لهم فرجة وقال الاخر
اللهم انی كنت استأجرت اجیرا بفرق ارز فلما قضی علیه
قال اعطنی حقی فعرضت علیه حقه فترکه ورغب عنه فلم
ازل ازعه حتی جمعت منه بقرا وراعیها فجاء نى فقال
اتق الله ولا تظلمنی واعطنی حقی فقلت اذهب الی ذلك
البقر وراعیها فقال اتق الله ولا تهزأ بى فقلت انى لا
اهزأ بك فخذ ذلك البقر وراعیها فاخذنه فانطلق بها فان
كنت تعلم انی فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقى ففرج
الله عنهم.

(بخاری شریف ص ۳۰۳، ۳۱۴ ج ۱ باب من استأجر اجیرا وترک اجره و باب اذا زرع
بمال قوم..... مسلم شریف)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا، تین آدمی جا رہے تھے کہ انہیں بارش نے آیا۔ چنانچہ وہ
ایک پہاڑ کی غار میں چھپ گئے۔ غار کے منہ پر پہاڑ کے اوپر سے
ایک بہت بڑا پتھر آگرا اور وہ بند ہو کر رہ گئے۔ چنانچہ وہ آپس میں
کہنے لگے کہ کوئی ایسا نیک عمل دیکھو جو تم نے محض رضائے الہی کے

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

لیے کیا ہو اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، تو شاید یہ مشکل آسان ہو جائے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا: اے اللہ! میرے والدین زندہ تھے اور انتہائی بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے نیز میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ میں ان کے لیے بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب میں شام کو واپس لوٹتا تو بکریوں کا دودھ دوہتا اور اپنے بچوں سے پہلے والدین کو دودھ پلایا کرتا تھا۔ ایک روز جنگل میں دور جا نکلا اور شام کو دیر سے واپس لوٹا تو میرے والدین اس وقت سو چکے تھے۔ میں حسب معمول دودھ لے کر ان دونوں کے سرہانے آکھڑا ہوا۔ میں نے انہیں نیند سے بیدار کرنا ناپسند کیا اور بچوں کو ان سے پہلے پلا دینا بھی مجھے اچھا نہ لگا۔ حالانکہ بچے میرے قدموں کے پاس رو رہے تھے حتیٰ کہ صبح ہونے تک میری اور ان کی یہی حالت رہی۔ اے اللہ! تو جانتا ہے اگر میں نے یہ کام محض تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے تاکہ ہم آسمان تو دیکھ سکیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسے تھوڑا سا ہٹا دیا کہ اس میں سے انہیں آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا اے اللہ! میری اک چچا زاد بہن تھی جس سے میں بہت زیادہ محبت کرتا تھا جتنی کہ کوئی آدمی کسی عورت سے کرتا ہوگا۔ میں نے اس سے اپنی دلی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے اس وقت تک کے لیے انکار کیا جب تک کہ میں اسے سو دینا نہ دوں۔ میں نے دوڑ دھوپ شروع کر دی یہاں تک کہ سو دینا جمع کر لیے۔ میں انہیں لے کر اس کے پاس گیا۔ جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے! اللہ سے ڈرا اور بند مہر کو نہ

Click For More Books

کھول۔ پس میں اس کے پاس سے (بغیر گناہ کیے) واپس چلا آیا۔ اے اللہ! اگر میں نے ایسا محض تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہماری اس مشکل کو آسان فرما دے پس چٹان تھوڑی سی اور ہٹ گئی۔ تیسرے نے کہا اے اللہ بیشک میں نے ایک مزدور کو کام پر لگایا تھا کہ ایک فرق (خاص پیمانہ) چاول دوں گا۔ جب وہ کام ختم کر چکا تو اس نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا۔ میں نے مزدوری اس کے سامنے رکھ دی لیکن وہ مزدوری چھوڑ کر میرے پاس سے چلا گیا۔ پس میں اس (اجر ت) سے برابر کاشتکاری کرتا رہا یہاں تک کہ غلے سے کئی گائیں خرید لیں اور چرواہا رکھ لیا۔ مدتوں بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ سے ڈرو مجھ پر ظلم نہ کرو اور میرا حق مجھے دیدو۔ میں نے کہا ان گایوں اور چرواہے کی طرف جاؤ یہ سب تمہارا مال ہے اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میرے ساتھ مذاق نہ کرو۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں بلکہ یہ اپنی گائیں اور چرواہا لے جاؤ۔ پس وہ انہیں لے کر چلا گیا۔ پس تو جانتا ہے اگر میں نے یہ محض تیری رضا کے لیے کیا تو جتنا راستہ بند ہو گیا ہے اسے کھول دے پس اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے سے وہ پتھر ہٹا دیا۔“

ماں باپ کو کیسے خوش دکھا جائے

غنیۃ الطالبین میں لکھا ہے کہ والدین کے ساتھ بھلائی کی صورتیں یہ ہیں اولاد ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، انہیں تکلیف نہ پہنچنے دے۔ والدین کے ساتھ بچوں جیسی نرمی اور محبت کی باتیں کرے۔ ان کی خدمت کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ والدین سے کھینچ کر نہ رہے، سچے دل اور محبت سے ان کی خدمت کرے،

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ان کی طرف سے دکھ برداشت کرے، ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرے، شرعی مخالفت نہ ہو تو کسی کام میں ان کی مخالفت نہ کرے، اگر وہ کسی ایسے کام کے لئے کہیں (جو خلاف شرع ہو) تو اس حکم کو نہ مانے۔ جیسے حج، نماز، زکوٰۃ، کفارہ اور اللہ تعالیٰ کی نذر وغیرہ ترک کرنے کا حکم نہ مانے۔ اگر والدین کے حکم سے کسی حرام کام کا ارتکاب ہوتا ہو جیسے زنا، شراب نوشی، قتل، زنا کی تہمت لگانا، ناجائز مال لینا یعنی چوری اور ڈاکہ وغیرہ تو اس حکم کی اطاعت نہ کرے۔ والدین کی فرمانبرداری کے لیے نفلوں کو ترک کیا جاسکتا ہے اور یہ افضل ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ والدین نے جن لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے ان سے خود بھی ترک تعلق کرے اور جن لوگوں سے والدین کے تعلقات ہوں ان سے تعلق قائم رکھے۔ ماں باپ کے متعلق مخالفین پر ایسے ہی غصہ کرے جیسے اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ اگر والدین کی کسی بات پر غصہ آئے تو اس وقت ان کی تکالیف اور قربانیوں کو یاد کرے جو اس کو پالنے کے سلسلہ میں انہوں نے اٹھائیں اور حکم خدا اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر غصے کو پی جائے ورنہ سمجھ لے کہ بد نصیب ہے اور خدا کی ناراضگی میں مبتلا ہے۔

☆ اگر والدین وفات پا گئے ہیں تو اپنی ہر دعا میں ان کو شامل رکھے، اپنی اور ان کی مغفرت کی دعا کرتا رہے، حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یوں دعا کی ”اے اللہ ابو ہریرہ اور محمد بن سیرین کی والدہ کے لیے جو بھی دعائے مغفرت کرے تو اس کی بخشش فرما“ حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اس دعا کا حق دار بننے کے لیے آپ کی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ (الادب المفرد ص ۹)

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ماں کا واقعہ

یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کے اسلام لانے کا واقعہ مسلم شریف ج ۲ ص ۳۰۱ مسند احمد ج ۲ ص ۳۲۰ کے حوالے سے لکھنا نہایت مناسب رہے گا چنانچہ آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا تھا۔ وہ مشرک تھیں۔ ایک روز میں نے انہیں دعوت دی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بات کہی جو مجھے ناگوار گزری۔ میں روتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ (و علی آلہ واصحابہ وبارک) وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! میں اپنی والدہ کو اسلام کی طرف بلاتا تھا وہ نہ مانتی تھیں۔ آج جب میں نے ان کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے حق میں وہ بات کہی جو مجھے (بہت) ناگوار ہے۔ آپ (مہربانی فرما کر) اللہ (تبارک و تعالیٰ جل جلالہ) سے دعا فرمائیں کہ ابو ہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی والدہ کو ہدایت عطا فرمائے۔ حضور (نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام والرحمۃ والثناء) نے فرمایا:

اے اللہ! ابو ہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی ماں کو ہدایت عطا فرما۔ میں نبی کریم (علیہ الرحمۃ والتسلیم) کی دعا سے خوش ہو کر نکلا۔ جنب میں گھر آیا اور دروازے پر پہنچا تو وہ بند تھا۔ میری والدہ نے میرے پاؤں کی آواز کو سنا اور فرمانے لگیں۔ اے ابو ہریرہ! ذرا ٹھہرا رہ۔ (فرماتے ہیں) میں نے پانی کے گرنے کی آواز سنی۔ میری والدہ نے غسل کیا۔ اپنی قمیص پہنی اور اوڑھنی اوڑھنے میں جلدی کی پھر دروازہ کھولا۔ بعد ازیں فرمانے لگیں اے ابو ہریرہ! میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ (تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم) کے سوا کوئی (برحق) معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتی ہوں کہ (حضرت) محمد (مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علی آلہ

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

واصحیہ وبارک وسلم) اس کے بندے اور رسول ہیں۔ (حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ) فرماتے ہیں میں خوشی سے روتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا۔ اور عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم)! آپ کو خوشخبری ہو۔ اللہ (تبارک و تعالیٰ جل جلالہ) نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا ہے اور ابوہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کی والدہ (ماجدہ) کو (دولت) ہدایت بخشی ہے۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اللہ (تبارک و تعالیٰ جل سلطانہ) کی حمد و ثنا کی اور بہتر بات ارشاد فرمائی۔ (حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ) فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم) اللہ عزوجل سے دعا کیجئے کہ میری اور میری ماں کی محبت ایمان والوں کے دل میں ڈال دے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ تب (آقائے دو جہاں سرور انبیاء جناب (رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ (جل جلالک) اپنے بندوں کی یعنی ابوہریرہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) اور اس کی ماں کی محبت اپنے صاحب ایمان بندوں کے دلوں میں ڈال دے اور مومنوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دے۔ پھر کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس نے مجھے سنا یا دیکھا ہو اور مجھ سے محبت نہ کی ہو۔ یعنی ہر ایک مومن بندہ خدا نے مجھ سے محبت کی۔ سبحان اللہ

اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے خیر کی فوری نتیجہ خیزی کو کتنے اچھوتے انداز میں بیان فرمایا ہے:

اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا

بڑھی ناز سے جب دعائے محمد

(صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم)

والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے کیا کیا جائے؟

ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا۔

یا رسول اللہ هل بقی من برا ابوی شیء ابرہما بہ بعد موتہما۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا اپنے والدین کی وفات کے بعد بھی کسی طرح ان کے ساتھ نیکی کی کوئی صورت ہے؟

قال نعم الصلوة علیہما ولاستغفار لہما وانفاذ عہدہما من بعد ہما وصلۃ الرحمہ الی لا توصل الیہما واکرام صدیقہما۔

فرمایا ہاں ان کی نماز جنازہ پڑھنا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ان کی وصیت کو پورا کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے دوستوں کی عزت و تکریم کرنا۔

☆ ایک حدیث شریف میں ہے:

من استغفر للمؤمنین والمؤمنات کتب اللہ لہ بکل مؤمن ومؤمنۃ حسنة۔ (طبرانی)

جو شخص کسی مسلمان مرد و عورت کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے تو جتنے اہل ایمان کے لیے دعا کرتا ہے اتنی ہی نیکیاں خود اس کے لیے لکھ دی جاتے ہیں۔

☆ اور والدین کے لیے خاص طور پر فرمایا:

ان العبد لیبوت والداه او احدہما وانہ لہما لعاق فلا یزال یدعوالہما ویستغفر لہما حتی یکتبہ اللہ باراً۔ (بیہقی)

Click For More Books

اگر والدین یا دونوں میں سے ایک فوت ہو جائے اور بیٹا ان کا نافرمان تھا تو ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیکیوں میں لکھ لیتا ہے۔

کیونکہ فوت ہونے والے زندوں کی دعاؤں کے محتاج ہوتے ہیں اور جب زعدہ لوگ ان کو ایصالِ ثواب کرتے ہیں تو مرحومین کو خوشی حاصل ہتی ہے جسکی وجہ سے ایصالِ ثواب کرنے والوں کے ساتھ ان کی دنیوی زنجشیں محبت میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

مَا الْبَيْتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمَتْفُوثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةَ تَلْحِقُهُ
مَنْ أَبِ أَوْ أُمٍّ أَوْ أَخٍ أَوْ صَدِيقٍ فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ
الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لِيَدْخُلُ عَلَى أَهْلِ الْقُبُورِ مِنْ
دَعَاءِ الْأَرْضِ أَمْثَالِ الْجِبَالِ وَإِنْ هَدِيَةِ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ
الْإِسْتِغْفَارَ لَهُمْ۔ (بیہقی)

قبر میں مردہ کی حالت ڈوبتے ہوئے فریاد کرنے والے کی طرح ہوتی ہے وہ دعا کی انتظار میں ہوتا ہے کہ اس کا باپ یا ماں یا بھائی یا دوست اس کے لیے دعا کرے۔ اور جب (یہ لوگ دعا کرتے ہیں تو ان کی) دعا اس کو پہنچتی ہے تو یہ دعا اس کو ساری دنیا سے زیادہ پیاری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ زمین والوں کی دعاؤں (کا ثواب مردوں) کو پہاڑوں کی طرح بڑھا چڑھا کر دیتا ہے اور زندوں کی دعائیں مردوں کے لیے تحفہ ہوتی ہیں۔ (کیونکہ ان کے لیے بلندی درجات کا باعث بنتی ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جنت میں ایک بندے کا درجہ بلند کر

دیا جائے گا وہ عرض کرے گا مالہذا، اے اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا استغفار ولدك لك، تیرے پیٹے نے تیرے لیے دعا کی ہے۔ (ابن ماجہ، احمد)

حدیث شریف میں ہے ”بندوں کے اعمال پیر اور جمعرات کو بارگاہ رب العزت میں پیش ہوتے ہیں اور جمعہ کے دن انبیاء کرام اور والدین کے سامنے پیش ہوتے ہیں فیفرحون بحسناتهم و تزداد وجوہہم بیاضا و اشراقا فاتقوا اللہ ولا تؤذوا موتاكم (فتاویٰ رضویہ ج ۱۰ قدیم ص ۱۹۲ بحوالہ نو اور الاصول از امام حکیم ترمذی) پس یہ حضرات ان کی نیکیوں پہ خوشیاں مناتے ہیں اور ان کے چہرے کی رونق بڑھ جاتی ہے تو اللہ سے ڈرو اور (گناہ کر کے) اپنے مرحومین کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔

والدین کا قرض ادا کیا جائے

والدین پر قرض ہو چاہے اللہ تعالیٰ کا قرض نماز روزہ حج کی صورت میں یا لوگوں کا قرض ہو تو اولاد اس قرض کو ادا کر کے والدین کی خوشنودی حاصل کر سکتی ہے۔

☆ ایک عورت نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرا باپ اتنا بوڑھا ہے کہ سواری پر سوار ہو کر حج ادا نہیں کر سکتا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں کر سکتی ہو۔ یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے۔ (بخاری)

☆ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا! جو اپنے والدین کی طرف سے حج کرے گا وہ حج والدین کی طرف سے بھی ہو جائے گا اور حج کرنے والے کو دس حجوں کا ثواب بھی ملے گا۔ (دارقطنی)

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

☆ اسی میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرتا ہے تو وہ حج قبول ہوتا ہے اور اس کے والدین کی ارواح آسمان میں خوش ہوتی ہیں اور بیٹا اللہ کے ہاں نیک لکھا جاتا ہے۔ (ایضاً)

☆ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میری ماں نے حج کی نذر مانی تھی لیکن حج کرنے سے پہلے مر گئی کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ فرمایا ہاں کر سکتی ہو، بھلا بتاؤ تو اگر تیری ماں پر قرض ہوتا اور ادا کرنے سے پہلے مر جاتی تو تو اس کی طرف سے قرض ادا کر سکتی تھی یا نہیں؟ اس نے کہا! بے شک ادا کر سکتی تھی فرمایا! یہ اللہ کا قرض ہے اس کو ضرور ادا کرو۔ (ملخصاً)

اس سے معلوم ہوا کہ اگر والدین نے کوئی نذر مانی ہو اور ادا کرنے سے پہلے وفات پا جائیں تو اولاد ان کی نذر کو پورا کر کے ان کی خوشنودی حاصل کر سکتی ہے۔

والدین کی طرف سے صدقہ و خیرات کی جائے

وفات کے بعد والدین کی طرف سے صدقہ و خیرات کر کے بھی ان کی خوشیاں حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اس پر کئی احادیث پیش کی جاسکتی ہیں مثلاً۔

☆ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے، میرا خیال ہے اگر اس کو مہلت ملتی تو ضرور کوئی صدقہ و خیرات کرتی، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ فرمایا ہاں کرو۔ (بخاری)

☆ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

ان امر سعد ما تت فای الصدقہ افضل قال الباء فحفر بئرا

وقال هذه لام سعد۔ (ابوداؤد سنائی)

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہے کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا:
پانی پس انہوں نے کنواں کھدوا کر اپنی ماں کے ایصالِ ثواب کے لئے
وقف کر دیا جس کنویں کا نام ہی سعد کی ماں کا کنواں رکھ دیا گیا۔

☆ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا: انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس
کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین کے۔ صدقہ جاریہ، علم نافع اور
نیک بیٹا (جو ایصالِ ثواب کا منکر نہ ہو بلکہ) یدعو الہ۔ مرحوم کے لئے دعا
کرتا رہے۔

☆ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اپنی
والدہ کے (ایصالِ ثواب کے لئے صدقہ جاریہ کے طور پر) پورا باغ وقف کر
دیا۔ (بخاری باب الوقف)

والدین کی جائز وصیت کو پورا کیا جائے

والدین نے اگر کوئی جائز وصیت کی ہو یا کسی کو کچھ ہبہ کرنے کا وعدہ کیا تھا تو
حتی الوسع اس کو پورا کر کے والدین کی رضا کو حاصل کیا جائے۔ چنانچہ ابو داؤد
شریف کی حدیث ہے کہ عاص بن وائل نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد
میری طرف سے سو غلام آزاد کئے جائیں۔ اس کے ایک بیٹے ہشام نے اپنے حصے
کے پچاس غلام آزاد کر دیئے جبکہ دوسرے بیٹے عمرو نے پچاس غلام آزاد کرنے کا
ارادہ کر لیا لیکن کہا کہ میں پہلے حضور علیہ السلام سے پوچھ لوں (کہ میرے باپ کو
اس کا کچھ فائدہ بھی ہو گا یا نہیں) اور جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر
مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا:

انہ لو کان مسلماً فاعتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم

عنہ بلغه ذلك.

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اگر وہ مسلمان ہوتا پھر تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ کرتے یا حج کرتے تو ضرور اس کو ثواب پہنچتا۔

(مشکوٰۃ ص ۲۶۶ ابوداؤد ج ۲ ص ۲۳)

والدین کی قبر کی زیارت کی جائے

والدین کی وفات کے بعد ان کی قبر کی زیارت کو اپنا معمول بنایا جائے اس سے بھی ان کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور اس بارے حضور علیہ السلام نے اولاد کو عظیم خوشخبری بھی عطا فرمائی ہے چنانچہ بیہتی کی حدیث ہے جس کو حضرت محمد بن نعمان نے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا:

من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعة غفرلہ وکتب
برا

جو ہر جمعہ کو اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی اور اس کا نام نیکیوں میں لکھ دیا جائے گا۔

نزہۃ المجالس ج ۱ ص ۲۰۵ پہ ہے کہ ایک نیک عورت کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا: اے میرے پیارے بیٹے! مجھے وفات کے بعد شرمندہ نہ کرنا اور قبر میں مجھے وحشت میں نہ رکھنا جب وہ فوت ہوگئی تو بیٹا ہر جمعہ کو ماں کی قبر پر جاتا، دعا کرتا، ایصالِ ثواب کرتا، چند دن بعد ماں خواب میں ملی تو بیٹے نے حال پوچھا ماں نے کہا موت کی تلخی بڑی شدید ہے تاہم اللہ کا فضل ہے میں سکون میں ہوں، ریشم کا فرش ہے، ریجان کے صوفے ہیں، جن پر میں تا قیامت آرام کروں گی اے میرے بیٹے! ہر جمعہ کو میری قبر پہ حاضری دیتے رہنا کیونکہ مجھے تیری ملاقات و دعاؤں سے بڑی راحت ملتی ہے۔

[Click For More Books](#)

کیا کبھی تو نے تدبیر بھی کیا اے نوجواں
کس کے سینے سے چمٹی تھی تیری ننھی سی جاں
مادر مشفق اگر ہوتی نہ تیری پاسباں
کھا گئے ہوتے کبھی کے تجھ کو کتے بلیاں
یاد کر عہد طفولیت کے احسانات کو
آجگہ دیں اپنے سر آنکھوں پہ امہات کو

اسی کتاب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو شخص
مغرب اور عشاء کے درمیان شب جمعہ کو دو رکعتیں پڑھے۔ اس طرح کہ ہر رکعت
میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی ایک بار اور سورہ اخلاص تین بار اور نماز پڑھنے کے
بعد پندرہ دفعہ استغفار کرے اور پندرہ مرتبہ مجھ (حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ
وسلم) پر درود شریف بھیجے اور ان سب کا ثواب اپنے والدین کو بخشے تو اس نے ان
دونوں کا حق ادا کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان دونوں کا ثواب کسی کو معلوم نہیں۔

مزید فرمایا: جو ہر جمعہ کو والدین یا دونوں میں سے ایک کی قبر پہ حاضری دے
کر سورہ یسین پڑھے تو یسین شریف کے حروف کے برابر اس کی مغفرت ہوگی۔
(ابن عدی، دیلمی) حکیم ترمذی نے لکھا کہ والدین یا کسی ایک کی قبر کی زیارت سے
بھی ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے اور جو بکثرت زیارت کو اپنا معمول بنالے اس
کی پنی قبر کی زیارت لوفشتے آتے ہیں۔

ماں کے بارے میں چند مشاہیر کی آراء

اگر مجھے میری ماں سے جدا کر دیا جائے تو میں پاگل ہو جاؤں۔ (حکیم لقمان)

ماں سے بغیر گھر قبرستان کی طرح ہے۔ (اورنگ زیب عالمگیر)

ماں باپ سے زیادہ مہربان ہوتی ہے۔ (افلاطون)

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

سخت سے سخت دل کو ماں کی پُر نَم آنکھوں سے موم کیا جاسکتا ہے۔ (علامہ اقبال)

ماں میری دنیا کی عزیز ترین ہستی ہے۔ (ظہیر الدین)

ماں سے ہمدردی کی توقع رکھنے کی بجائے خود اس کا ہمدرد بننا چاہیے۔ (ازمطو)

ماں اور پھول میں مجھے فرق نظر نہیں آتا۔ (نادر شاہ)

ماں کی اصل خوبصورتی اس کی محبت ہے اور میری دنیا کی خوبصورتی میری ماں

ہے۔ (محمد علی جوہر)

ہماری ماں نے ہمیں زندہ رہنے اور آزادی سے زندگی گزارنے کا سبق دیا۔

(مولانا شوکت علی)

بچے کا مستقبل ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے۔ (الطاف حسین حالی)

ہر شخص انسانیت کی حقیقی تصویر اپنی ماں کے چہرے پہ دیکھ سکتا ہے۔

(جلال الدین اکبر)

اگر ہم بہترین قوم کے خواہش مند ہیں تو ہمیں بہترین مائیں پیدا کرنی ہوں

گی۔ (سر سید)

میری ہر تکلیف اور غم میں میری ماں کا تصور میرے لئے فرشتہ بن کر آیا۔

(ابوالفضل فیضی)

جس طرح بچوں کی بھیڑ میں ایک حبش کو اپنا ہی بچہ سب سے پیارا لگتا ہے

اسی طرح ایک شخص کو اپنی ہی ماں اچھی لگتی ہے اور وہ اس سے متاثر رہتا

ہے۔ (صباح الدین جامی)

ماں کی خدمت میں نذرانہ محبت

☆ ماں تو ایک دعائے مستجاب ہے۔

☆ ماں پر تو رحمت ہے رب کریم کی۔

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

- ☆ ماں مونس و غمخوار بھی ہے۔
- ☆ ماں لوری ہے فردوس کے نعموں کی۔
- ☆ ماں اولاد کے لئے ڈھال ہے مصائب دہر میں۔
- ☆ ماں عصائے موسوی ہے راہ دشوار میں۔
- ☆ ماں وہ ہستی ہے جس کی عظمت کا بیان الفاظ میں ممکن نہیں۔
- ☆ ماں ممتا کی انمول داستان ہے جس پر جان بھی قربان ہے۔
- ☆ ماں ایک مشعل ہے جو اندھیرے میں راستہ دکھاتی ہے۔
- ☆ ماں ایک خوشبو ہے جس سے سارا جہان مہکتا ہے۔
- ☆ ماں ایک سایہ ہے جس کے پاس ستانے سے زندگی بھر کی تھکن اُتر جاتی ہے۔

- ☆ ماں ایک دعا ہے جو سدا سر پر چادر کی طرح تنی رہتی ہے۔
- ☆ ماں ایک آہ ہے جو سیدھی عرش پہ جاتی ہے۔
- ☆ ماں کی خدمت جنت کی ضامن ہے۔
- ☆ ماں ایک سایہ ہے جو اندھیرے میں اور بھی قریب آ جاتا ہے۔
- ☆ ماں کی زندگی میں محبت کا عنصر شامل کیا گیا ہے۔
- ☆ ماں کا پیغام سب سے خوبصورت اور شیریں ہے۔
- ☆ جن لوگوں کے دلوں میں ماں کی عظمت کا احساس نہ ہو وہ یقیناً بد قسمت اور بد بخت ہیں۔

- ☆ بچے کے لئے سب سے اچھی جگہ ماں کا دل ہے خواہ بچے کی عمر کتنی ہی ہو۔
- ☆ دنیا میں ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا اور وہ دروازہ ماں کی ممتا کا ہے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

- ☆ ماں ایک ایسی لازوال ہستی ہے کہ جس کے دم سے یہ کائنات آباد ہے۔
- ☆ جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے ان میں سے ماں کا نام فرمان بھی ہے۔
- ☆ ماں کا تصور اس کی یاد اور اس کا ذکر دکھوں کی تمازت کو کم کرتا ہے۔
- ☆ ہو سکتا ہے جب میں اپنی ماں کی یاد میں روتا ہوں تو فرشتے میرے آنسو پونچھتے ہو۔
- ☆ ماں ایک عظیم ہستی ہے اگر وہ نہ ہو تو دنیا کی کوئی شے اچھی نہ لگتی۔
- ☆ جس گھر میں ماں کی عزت نہ ہو وہ گھر ضرور برباد ہو جاتا ہے۔
- ☆ ماں اپنے آنچل سے ہمارے تمام اشک پونچھ کر ہمیں مسکرانا سکھاتی ہے۔
- ☆ جب بچہ مسکراتا ہے تو ماں کی پوری کائنات جھومتی محسوس ہوتی ہے۔
- ☆ ماں نہ ہو تو گھر میں خوشی کے پھول نہیں کھلتے۔
- ☆ ماں اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔
- ☆ ماں کی پر نرم آنکھوں سے سخت سے سخت دل کو موم کیا جاسکتا ہے۔
- ☆ ماں کے بغیر گھر سونا سونا لگتا ہے۔
- ☆ ماں ایک پھول ہے جو دنیا کے کانٹے چھیننے کے باوجود مسکراتا ہے۔
- ☆ ماں زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے۔
- ☆ ماں کو مصیبت کے وقت جب بھی یاد کرتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔
- ☆ ماں ایک کتاب کی مانند ہے۔
- ☆ ماں ایک ایسا درخت ہے جس کا سایہ زندگی کی تھکن دور کرتا ہے۔
- ☆ ماں کی دعا کا میا بی کا راز ہے۔
- ☆ ماں دکھوں کا مداوا ہے۔

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

☆ ماں کا سایہ شہد کی طرح فرحت اور تسکین دیتا ہے جیسے صحرائے عرب میں سر سبز درخت۔

☆ ماں کی نافرمانی کرنے والا کبھی سکون نہ پائے گا۔

☆ ماں کی اطاعت کرنے والا جنت میں جائے گا۔

☆ ماں ایک ایسا موتی ہے جو ایک بار کھو جانے کے بعد دوبارہ نہیں ملتا۔

☆ ماں خدا کا عظیم تحفہ ہے۔

☆ ماں کی محبت کسی خزانے سے کم نہیں۔

☆ ماں ایسی چھاؤں ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔

☆ جس نے ماں کا ادب کیا وہ دنیا و آخرت میں فلاح پائے گا۔

☆ کبھی ماں سے بددعا نہ لو۔

☆ ماں سے بڑھ کر گھنی چھاؤں والا پودا نہیں دیکھا گیا۔

☆ دنیا میں کوئی بھی چیز ماں جیسی شفیق پیدا نہیں ہوئی۔

☆ ماں کا دل سدا بہار پھولوں کی مانند ہے۔

☆ کان کھول کر سن لو ہر درد کی دوا صرف ماں ہے اور ہر محبت ماں کی محبت کے

سامنے کمتر ہے۔

☆ صبر و برداشت کی عظیم کہانی ماں ہے۔

☆ ماں کی حکمت و تدبیر گھر کو آباد رکھتی ہے۔

☆ کوئی ماں اپنے بچوں کو بدتمیز دیکھنا پسند نہیں کرتی۔

☆ ماں گھر کی روشنی ہے۔

☆ پہاڑ اور خزاں میں ماں ہی ہماری پُر خلوص ساتھی ہے۔

☆ ماں زندگی کے اندھیروں میں اجالا ہے۔

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

- ☆ اللہ تیرے سارے گناہ بخش دے گا تو صرف اپنی ماں کو راضی کر لے۔
- ☆ ماں حسن سلوک اور فرمانبرداری کی سب سے زیادہ مستحق ہے۔
- ☆ قومیں اپنی ماؤں کی گود میں پلتی اور انہی کے اخلاق و اطوار حاصل کرتی ہیں۔
- ☆ ماں کی خوشی سے خدا خوش ہوتا ہے۔
- ☆ خوش قسمت ہے وہ اولاد جس کے والدین اس سے خوش ہوں۔
- ☆ ماں کا دل بڑا نرم اور رحیم ہوتا ہے۔
- ☆ ماں ایک نعمہ جانفزا ہے جو سننے والے کے دل میں اتر جاتا ہے۔
- ☆ ماں گلشن کا وہ دلکش پھول ہے جس میں خوبصورتی نمایاں ہوتی ہے۔
- ☆ ماں وہ ہستی ہے جس کی تعریف کے لئے دنیا میں الفاظ نہیں ملتے۔
- ☆ ماں وہ شخصیت ہے جو ہر وقت اپنی اولاد کی خوشی کے لئے دعا مانگتی ہے۔
- ☆ دونوں جہانوں میں خوشحال زندگی کا دار و مدار ماں کی دعا پر ہے۔
- ☆ لمبی عمر پانے کے لئے ماں کی دعا بے حد ضروری ہے۔
- ☆ ماں ایک ایسی شفیق ہستی ہے جس کی شفقت کبھی تہی دامن نہیں ہوتی۔
- ☆ ماں قسمت بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔
- ☆ ہر ماں کے نزدیک اس کی اولاد ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔
- ☆ دنیا میں کوئی رشتہ ماں سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔
- ☆ ماں کا غصہ وقتی ہوتا ہے جو فوراً زائل ہو جاتا ہے۔
- ☆ ماں کا پیار کسی کو بتانے یا دکھانے کا نہیں ہے۔
- ☆ بچے کے لئے سب سے اچھی جگہ ماں کی گود ہے۔
- ☆ ماں سچائی کا پیکر، گلاب جیسی خوشبو، چودھویں کے چاند کی چاندنی اور لازوال محبت ہے۔

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

- ☆ ماں گلشن کا وہ پھول ہے جو چمن کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔
- ☆ ماں ایک لازوال رشتہ ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔
- ☆ ماں ٹھنڈک ہے ابر بہاراں کی۔
- ☆ ماں کی محبت چٹان سے زیادہ مضبوط اور پھول سے زیادہ خوبصورت ہے۔
- ☆ شفقت جو بھی تھی باپ کے حصے میں آگئی اور پیار کے تمام جذبے ماں میں آئے۔
- ☆ ماں کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔
- ☆ ماں کی خوشنودی دنیا میں باعث سعادت اور آخرت میں باعث نجات ہے۔
- ☆ ماں کی اصل خوبصورتی اس کی محبت ہے۔
- ☆ ماں کی آغوش انسان کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔
- ☆ ماں سے بڑھ کر کوئی بڑا اُستاد نہیں۔
- ☆ ماں کی دعا میں اولاد کی کامیابی کا راز ہے۔
- ☆ ماں کی محبت پھول سے زیادہ تروتازہ اور لطیف ہے۔
- ☆ ماں کی بددعا سے بچو کیونکہ خدا اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔
- ☆ ماں کا دوسرا نام جنت ہے ماں کے بغیر کائنات نامکمل ہے۔
- ☆ ماں کتنا وسیع ہے تیرا صبر اور کتنی روان ہے تیری مہربانی۔
- ☆ اسلامی تہذیب کی پوری عمارت ماں کی تعظیم و اطاعت پر قائم ہے۔
- ☆ ماں کی دعا کی خوشبو سدا مہکتی رہتی ہے۔
- ☆ ماں کا دل اتنا وسیع ہے کہ اس میں کائنات سما جاتی ہے۔
- ☆ بچے ماں کی گود میں تحفظ حاصل کرتے ہیں۔
- ☆ بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کو آداب دعا خود بخود آ جاتے ہیں۔

[Click For More Books](#)

- ☆ ماں ایک ایسا ستارہ ہے جو زندگی میں کبھی نہیں ڈوبتا۔
- ☆ زندگی کی تمام مسرتیں پیار سے ”ماں“ کہنے سے مل جاتی ہیں۔
- ☆ ماں کی محبت حقیقت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔
- ☆ بچے کا مستقبل ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے۔
- ☆ ماں نعمت و رحمت ہے۔
- ☆ ماں سچائی کا پیکر ہے۔
- ☆ ماں ہمیشہ اپنی اولاد کا ناز اٹھاتی ہے۔
- ☆ ماں پریشان ہو تو کائنات بے چین ہو جاتی ہے۔
- ☆ دیکھو تمہیں مسکراتا دیکھ کر ماں کتنی خوش ہوتی ہے۔
- ☆ ماں وہ صدف ہے جس کے سینے میں حقیقی محبت کا چمکدار موتی چھپا ہے۔
- ☆ ماں خدا کا جلوہ اور اس کی خوشی ہے لہذا ماں کو خوش رکھنا ضروری ہے۔
- ☆ سب سے خوبصورت اور میٹھا پیار ماں کا ہوتا ہے۔
- ☆ ماں کی دعا مایوسیوں میں روشنی کا مینار ہوتی ہے۔

کے کرے جب یاد ماں مجھ کو کہیں اپنی دعاؤں میں
کڑی پھر دھوپ سے آؤں گھنی ٹھنڈی سی چھاؤں میں
سلگتے ہیں مرے نالے تو ملتی ہے وہ پھر جنت
اے ماں میری مری ہمد مجھے تیرے ہی پاؤں میں



عظیم لوگوں کی عظیم مائیں

جو کہ اک ابر کرم ہے ایک کشت بارور
زندگی کے شہد سے بھرپور جس کے برگ و بر
مختلف صورت میں ہر اک دور میں زندہ رہی
آمنہ مریم کبھی دائی حلیمہ بن گئی
جس کی عظمت کی گواہی دی خدائے پاک نے
جس کو دی تعظیم بڑھ کر صاحب لولاک نے

رسول اعظم ﷺ کی ماں (رضی اللہ عنہا)

ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ حق میں جس قدر تکالیف پہنچیں اور
جتنا آپ کو ستایا گیا کسی نبی و رسول کو اس قدر نہ ستایا گیا لیکن حضور علیہ السلام نے
زندگی کے تمام مراحل پہ صبر و استقامت، تحمل و برداشت اور جرأت و مردانگی کا
مظاہرہ فرمایا اور اپنی امت کو بھی حضور علیہ السلام نے یہی تعلیم ارشاد فرمائی۔

چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے چھ برس کی عمر تھی کہ آپ
(صلی اللہ علیہ وسلم) کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو مدینہ شریف لے
گئیں۔ مدینہ شریف میں ایک ماہ تک قیامت کے بعد جب مکہ مکرمہ واپس آ رہی
تھیں تو مقام ابواء شریف پہ پہنچ کر داغ مفارقت دے گئیں۔ دیار غیر میں دوران

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

سفر اس طرح کا حادثہ کوئی معمولی نہیں ہوتا والد ماجد کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے ہی سر سے اُٹھ گیا۔ اب والدہ ماجدہ نے بھی داعی اجل کو لبیک کہہ دیا تو شدتِ غم سے آپ کی چشمانِ مقدس سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔

حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو اس سفر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھیں وہ آپ کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آئیں۔

حضرت ام ایمن وہ بزرگ خاتون تھیں کہ ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری والدہ کے بعد میری ماں ہے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام انہیں امی کہہ کر پلایا کرتے تھے ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ساتھ کنیزہ کے طور پر رہتی تھیں۔ جب آپ کے والد حضرت عبد اللہ نے وفات پائی تو یہ (حضرت آمنہ ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم) کی خدمت کرنے لگیں، سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت حضرت آمنہ کی خبر گیری اور خدمت پر معمور تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جن خوش نصیبوں کو سبقت فی الاسلام کی سعادت نصیب ہوئی حضرت ام ایمن بھی ان میں شامل تھیں۔

حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا بیوگی کا زمانہ گزار رہی تھیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جنت کی کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے تو وہ حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ (ان کے بطن سے ہی محبوب رسول حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تھے)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتی تھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم

[Click For More Books](#)

نے رحلت فرمائی تو یہ شدت غم سے نڈھال ہو گئی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ایسے جاری تھے کہ تھمتے نہ تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہ کی اس حالت کا علم ہوا تو ان کے پاس تشریف لے گئے اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا: اے ام ایمن! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ کے پاس بہتر چیز موجود ہے۔ یہ بولیں: یہ تو مجھے معلوم ہے مگر میرا رونا تو اس لئے بھی ہے کہ اب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے یہ سن کر صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر بھی بہت رقت طاری ہو گئی یہ دونوں بزرگ بھی رونے لگے۔ رضی اللہ عنہم (مسلم شریف)

صحیح مسلم اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت بریرہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر جب اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لئے تشریف لے گئے تو والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر بے اختیار رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے دیکھ کر بے اختیار رو پڑے۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہ دیکھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر روئے۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں

خدا تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خدا کا حکم پا کر اپنے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہما کو ایک چٹیل میدان میں چھوڑ آتے ہیں۔ ایسی وادی جس میں نہ سبزہ ہے نہ پانی ہے۔

یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا

اسے آباد کر دینے کو ابراہیم آیا تھا

روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو اس جگہ چھوڑ کر بارگاہ ربوبیت میں دعا کرتے ہیں۔ جس کا ترجمہ شاعر نے یوں کیا

سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی
خدا کا فضل مانگا خوئے تسلیم و رضا مانگی
کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں
میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں
بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے
بس اب تو ہی محافظ لے یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے

حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ جاتے ہیں حضرت ہاجرہ اور ان کا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس بے آب و گیاہ وادی میں رہتے ہیں۔ چند دن تو وہ چیزیں کھاتی پیتی ہیں جو حضرت ابراہیم دے گئے تھے۔ جب وہ ختم ہو گئیں اور پانی بھی ختم ہو گیا۔ ادھر کھانے کے لئے بھی کچھ نہیں اور پینے کے لئے پانی بھی نہیں تو بچے کو دودھ پلانا مشکل ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سخت بے چین ہو گئیں۔

۔ کیونکہ

یہاں صحرا ہی صحرا تھا چٹانیں ہی چٹانیں تھیں
جناب ہاجرہ یا ایک بچہ دو ہی جانیں تھیں
زمین کا ذرہ ذرہ مہر کی صورت چمکتا تھا
بہت بے تاب تھی ماں گود میں بچہ بلکتا تھا

سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے بچے کا رونانا دیکھا گیا تو پانی کی تلاش میں ادھر

ادھر دوڑتی ہیں کہ شاید پانی مل جائے۔

[Click For More Books](#)

کبھی اس سمت جاتی تھیں کبھی اس سمت جاتی تھیں
خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھیں
بہت ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے
جدھر اٹھی نظر جھلے ہوئے ٹیلے نظر آئے
قیامت کی گھڑی تھی پڑ گئے تھے پاؤں میں چھالے
چلی جاتی تھیں آنکھیں آب میں بچے میں دل ڈالے

یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے کہ اماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا کس طرح دیوانہ وار پانی کی تلاش میں بھاگ رہی ہیں۔ بیٹا اسماعیل علیہ السلام پتھروں پر لیٹا ہوا ہے اور ماں کبھی کوہ صفا پر جاتی ہے کبھی کوہ مروہ پر جاتی ہے اور پھر کوہ مروہ سے کوہ صفا پر جاتی ہے ذرا دیکھئے بچہ بے قرار ہے اور ماں برق رفتار ہے۔

اگر آپ سوال کریں کہ ایک بھوکی پیاسی کمزور نحیف و ناتواں پاکیزہ فطرت جلاوطن اکیلی عقیہ کی حالت اس انتہائی مصیبت کے وقت کیا تھی تو اس کا جواب کوہ صفا کے پتھروں سے پوچھو جنہوں نے اس عقیہ کو خشک ہونٹوں اور کانپتے ہاتھوں سے بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے دیکھا تھا۔ اگر ماں کی سرفروشانہ کیفیت سننا چاہتے ہو تو ان تپتے ہوئے پتھروں اور جھلسا دینے والے ریت کے ذروں سے دریافت کرو جنہوں نے اس مقدس ماں کے قدموں کے لہو سے اپنی پیاس بجھائی تھی۔

کبھی سورج سے سوال کرو کہ اے آفتاب عالمتاب! کیا تو نے کبھی اس جیسا نظارہ دیکھا ہے آسمان سے پوچھو! زمین سے سوال کرو! تمہیں یہی جواب ملے گا کہ ماں کی ممتا جیسا جذبہ اور کسی میں نہیں دیکھا۔

ماں کو اپنے زخموں پاؤں سے رسنے والے خون کی پروا نہیں بلکہ پیاس سے

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

بلکنے والے بچے کا خیال ہے کیونکہ بچہ کو ماں کی جدائی گوارا نہیں اور ماں کو بچہ کی جدائی برداشت نہیں ہم جتنی کوشش بھی کریں مگر اپنے کم سن بچے کو رونے سے چپ نہیں کرا سکتے۔ مگر ماں کے ہاتھوں میں خدا تعالیٰ نے وہ برکت رکھی ہے کہ ادھر ماں نے ہاتھ بڑھائے اور ادھر اس ننھی سی بلکتی ہوئی جان کو سکون نصیب ہو گیا۔

(ماخوذ بقرف)

وہ میرے ساتھ روتی ہے وہ میرے ساتھ ہنستی ہے
مَری کب ہے مری ماں اب بھی میرے دل میں بستی ہے
زمانے بھر میں کوثر مل نہیں سکتا بدل جس کا
فقط اک ماں کی ہستی ہے فقط اک ماں کی ہستی ہے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں

قرآن مجید میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا تذکرہ اور ان کی بے قرار یوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں یوں فرمایا:

وَإِذْ نَادَىٰ إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ
أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا حَفَّتْ عَلَيْهِ
فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا
تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ
وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

اور ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ
کو حکم بھیجا کہ تو دودھ پلاتی رہ پس جب
تجھ کو ڈر ہو اس (بچے) کا تو ڈال دے
اس کو دریا میں اور نہ خطرہ کر اور نہ غمگین
ہو۔ ہم پھر پہنچا دیں گے۔ اس کو تیری
طرف اور کریں گے ہم اس کو رسولوں
(القصص: ۷)

میں سے۔

معزز قارئین! فرعون کی طرف سے بچوں کے قتل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔
فرعون کو نجومیوں نے کہہ دیا ہے کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ایک بچہ اس کی

[Click For More Books](#)

بادشاہی کے لئے خطرہ بن سکتا ہے اس لئے فرعون ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم دے چکا ہے اور اب تک ہزاروں بچے قتل ہو چکے ہیں۔ ان ہی دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ خوف زدہ ہوتی ہیں کہ کہیں میرے بچے کو بھی قتل نہ کر دیا جائے تو اس پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ کی والدہ کو حکم خداوندی ملتا ہے کہ میرے بھروسے پر اپنے بیٹے کو دریا میں ڈال دے۔ اسے دریا میں ڈالنا تیرا کام ہے اور پھر اسے نبوت دے کر بحفاظت تیری گود میں پہنچانا تیرے خدا کا کام ہے۔ سبحان اللہ العظیم

یہ خداوند قدوس کا حکم ہے جس میں اللہ رب العزت ایک بچے کو ماں سے جدا کرنے کی صورت میں اپنی الہامی آواز سے تسلی و تشفی فرما رہا ہے کہ بچے کے جدا ہونے کی صورت کے متعلق غم و اندیشہ نہ کرنا یہ جدائی فقط عارضی ہے۔ یہی بچہ چند حکیمانہ کارروائیوں کی تکمیل کے بعد تیرے حوالے کر دیا جائے گا اور پھر اس کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا جائے گا۔ مگر باوجود ان تسلیوں کے ماں کے دل کو قرار نہ رہا۔ اور یہ تسلیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس کے کسی رشتہ دار نے نہیں دی تھیں بلکہ خود احکم الحاکمین نے دی تھیں۔

اللہ کریم کے وعدہ کے باوجود کہ ہم تیرا بیٹا تجھے واپس لوٹا دیں گے۔ پھر بھی ماں کی مامتا بے چین رہتی ہے۔ اسے رات نیند نہیں آتی اور قرآن میں خود پروردگار عالم اس ماں بے قراری کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

واصبح فؤاد أم موسى فارغاً۔ اور صبح کو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں قرار نہ رہا۔

یعنی صبح اٹھ کر اسے بیٹے کی یاد ستانے لگی۔

[Click For More Books](#)

اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس ماں نے رات جاگ کر گزاری ہوگی جس ماں کا پیارا لخت جگر اس کی گود سے دور ہو گیا بلکہ خود اس نے اسے دریا کے سپرد کیا ہو۔ وہ نہ جانے کیا کچھ سوچتی رہی ہوگی۔ اسی حالت میں صبح کی اور صبح ہوتے ہی قریب تھا کہ صبر و ضبط کا رشتہ ہاتھ سے چھوٹ جائے اور لوگوں پر ظاہر کر دیں کہ میں نے اپنا بچہ دریا میں ڈالا ہے اگر کسی کو خبر ہو تو مجھے لا کر دے دے۔ لیکن خدا تعالیٰ کا وعدہ انا رادوہ الینک و جاعلوہ من البرسلین ۵ کو یاد کر کے دل کو تسلی دے دیتی تھیں۔

یہی وہ گرہ ہے جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔

ان کادت لتبدی بہ لولا ان
ربطنا علی قلبہا لتکون من
الؤمنین۔
قریب تھی کہ ظاہر کر دے بے قراری کو
اگر نہ گرہ دی ہوتی اس کے دل پر ہم
نے اس واسطے رہی یقین کرنے والوں
میں سے۔

اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف واپس کر دیا گیا تو ارشاد خداوندی ہے۔

فرددنہ الی امہ کی تقدیر
عینہا ولا تحزن۔
پھر ہم نے پہنچا دیا اس کو اس کی ماں کی طرف
تا کہ ٹھنڈی رہے اس کی آنکھ اور غمگین نہ ہو۔
یعنی جب بچہ ماں کے پاس ہو تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہتی ہیں اور اسے غم
نہیں رہتا اور جب ماں سے اس کا بیٹا دور ہو تو پھر ماں کو قرار آنا بہت مشکل ہے۔
معزز قارئین! ان حقائق کی روشنی میں ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ممتا کا جذبہ
ماں کے دل میں خدائے تعالیٰ کی طرف سے ایک وہی عطیہ ہے جس کے حصول
کے بعد ماں کا مقام حقوق العباد میں بہت ہی بلند ہو جاتا ہے۔ (ایضاً)

[Click For More Books](#)

غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ماں

حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ الرحمۃ ابھی بچے ہی تھے کہ آپ کو حصول علم اور مقبولان حق کی صحبت کا شوق پیدا ہوا آپ نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ امی جان مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں بغداد جا کر علم دین حاصل کروں۔ والدہ نے فرمایا: بیٹا! جاؤ اجازت ہے اور پھر چالیس دینار لا کر حضرت غوث اعظم کو دیئے کہ لو یہ اپنے خرچ کے لئے ساتھ لیتے جاؤ۔ حضرت غوث رضی اللہ عنہ نے وہ دینار لے لئے اور ایک بوڑھے میں سی کر کمر کے ساتھ باندھ لئے اور بغداد جانے کے لئے تیار ہو گئے والدہ نے رخصت کرتے وقت ارشاد فرمایا: بیٹا ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ سے ہمیشہ کنارہ کش رہنا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ والدہ سے رخصت ہو کر ایک قافلہ کے ہمراہ بغداد کو چل دیئے یہ قافلہ ایک جنگل میں پہنچا تو ساٹھ گھوڑ سوار ڈاکوؤں نے اس قافلہ پر حملہ کر دیا اور قافلہ کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ایک ڈاکو حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی آیا اور کہا: اے لڑکے! بتا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ہاں میرے پاس چالیس دینار ہیں۔ ڈاکو نے پوچھا کہاں ہیں؟ فرمایا یہ کمر میں بندھے ہیں۔ ڈاکو نے اس بات کو مذاق سمجھا اور چلا گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا اور اس نے بھی آپ سے یہی سوال کیا اور آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا وہ بھی مذاق سمجھ کر چلا گیا پھر تیسرا ڈاکو آیا اور اس سے بھی یہی سوال و جواب ہوا اسی طرح متعدد ڈاکوؤں نے آپ سے یہی سوال کیا تو آپ نے سبھی سے فرمایا: ہاں میرے پاس چالیس دینار ہیں۔ ڈاکوؤں کو کچھ شک گزرا تو وہ آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے آئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے بھی آپ سے یہی سوال کیا کہ کیوں اے فقیر لڑکے! تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں ہے۔ سردار نے پوچھا کیا ہے؟

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

فرمایا: چالیس دینار سردار نے پوچھا کہاں ہیں؟ فرمایا یہ کمر کے ساتھ بندھے ہیں۔ سردار نے آگے بڑھ کر تلاشی لی تو واقعی چالیس دینار نکل آئے۔

ڈاکوؤں کا سردار بہت حیران ہوا کہ اس لڑکے نے اپنا مال بتایا کیوں؟ جبکہ ڈاکوؤں سے تو مال چھپایا جاتا ہے چنانچہ ڈاکوؤں کے سردار نے بڑے تعجب کے ساتھ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا اے لڑکے! تم نے یہ مال ہم سے چھپایا کیوں نہیں اور صاف صاف بتا کیوں دیا؟ آپ نے فرمایا: میری والدہ نے مجھ سے سچ بولنے کا وعدہ لیا تھا اس لئے میں نے سچ ہی بولا اور سچ ہی بولتا رہوں گا تاکہ والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدہ کی خلاف ورزی نہ ہو۔ ڈاکوؤں کے سردار نے یہ بات سنی تو چیخ مار کر رونے لگا اور کہا ہائے افسوس! یہ لڑکا تو اپنی والدہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی اتنی پاسداری کرے اور میں جو اپنے رب سے وعدہ کر کے آیا ہوں آج تک اسے نباہ نہ سکا۔ اے لڑکے! ادھر لا ہاتھ میں تیرے ہاتھ پر آئندہ کے لئے توبہ کرتا ہوں یہ کہہ کر اس نے سچے دل سے توبہ کی اور پھر اپنے ماتحت ڈاکوؤں سے کہا جاؤ بھئی! میرے ساتھ اب تمہارا کوئی واسطہ نہیں ان ڈاکوؤں نے جواب دیا کہ آپ ہمارے سردار ہی رہیں گے اور وہ اس طرح کہ ہم بھی اس بُرے کام سے توبہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ان سب نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور لوٹا ہوا مال واپس کر کے آئندہ اچھی اور شرعی زندگی گزارنے لگے۔

(ہجرت الاسرار ص ۵۷)

معدن زر معدن فولاد بن سکتی نہیں

بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ماں

خلیفہ منصور کے دور میں امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عہدہ قضا کی پیش

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

کش کی گئی تو امام ابوحنیفہ نے اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیا، گورنر ابن ہبیرہ نے غیظ و غضب سے مغلوب ہو کر قسم کھاتے ہوئے اعلان کیا۔

وان لم يفعل لنضربنه بالنسياط

اگر عہدہ قضا کو ابوحنیفہ نے قبول نہ کیا تو میں ان کے سر پر کوڑے مار کر رہوں گا۔

گورنر نے امارت کے گھمنڈ میں قسم کھائی تو لوگ کانپ اٹھے مگر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو دین کے نشہ میں مخمور تھے اور ابن ہبیرہ کے کوڑوں سے زیادہ آخرت کی فکر تھی۔ آپ نے اسی لب و لہجہ میں فرمایا: واللہ لافعلت ولزقتلنی خدا کی قسم میں ہرگز عہدہ قضا قبول نہ کروں گا اگرچہ مجھے ابن ہبیرہ قتل ہی کیوں نہ کر دے۔

امام ابوحنیفہ کا یہ جواب گورنر کی رفعت کے مینارے پر کلہاڑی تھا امام صاحب کا یہ جواب اس کی احساس برتری پر ایسی چوٹ تھی کہ تلملا اٹھا امام ابوحنیفہ کو جیل سے نکلوا کر اپنے سامنے حاضر کروایا۔ غصہ سے جہنم کی آگ کی طرح بھڑک رہا تھا دنیاوی اختیارات کی وسعتوں کے پیش نظر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو موت تک کی دھمکی دے رہا تھا۔ امام ابو اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے پوری استقامت اور بڑی بے نیازی کے ساتھ فرمایا۔ انہا ہی میتة واحدة۔

صرف ایک ہی موت تک ابن ہبیرہ کا اقتدار ہے۔

ابن ہبیرہ کے اشارہ سے جلا دٹوٹ پڑے امام ابوحنیفہ کے کھلے سر پر پے در پے کوڑے برس رہے تھے۔ جب سزا کے بعد ابوحنیفہ کو واپس جیل خانہ لے جایا جا رہا تھا تو سر پر مار کے نشان پڑے ہوئے تھے اور مظلوم امام کا چہرہ سو جا ہوا تھا۔ امام ابوحنیفہ پر گریہ طاری تھا۔ لوگوں نے اس بارے میں دریافت کیا تو امام صاحب

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”اس ماں کی مجھے کچھ پرواہ نہیں بلکہ مجھے اپنی ماں کی فکر ہے کہ میرے اس حال کو دیکھ کر اس بے چاری کا کیا حال ہوگا۔“

(دفاع امام ابوحنیفہ ص ۲۳۷-۲۳۸)

وہ مائیں پیدا کرتی تھیں نمازی
وہ مائیں جبکہ لیتی تھیں بلائیں
عبادت میں کٹے بیٹا جوانی
وہ مائیں گھر کی دیواروں کی زینت
بھلا بیٹے وہ کب مسجد میں آئیں
دہنی تلوار کے میدان کے غازی
یوں بیٹوں کو وہ دیتی تھیں دعائیں
شہادت میں ختم ہو زندگانی
نہ یہ مائیں کہ بازاروں کی زینت
کہ جن کی بے ادب ایسی ہوں مائیں

خیر التابعین حضرت اویس قرنی کی ماں

سیدنا حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون واقف نہیں ہوگا۔ ملک یمن کی قرن نامی بستی میں تشریف فرما تھے اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے ہر وقت بے تاب رہتے تھے۔

حاضری کا قصد بھی کیا مگر ماں کی خدمت میں مشغول ہونے کی وجہ سے کبھی ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ یہ اپنی والدہ کے بڑے فرمانبردار و خدمت گزار تھے جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے ان کی ماں روبرو لگتیں اور غمزدہ ہو جاتیں اسی وجہ سے یہ ہر بار اپنا ارادہ بدل دیتے یہاں تک کہ سرکار دو جہاں سید انس و جاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے دار جاودانی کی طرف رحلت فرما گئے اور ان کی بے قرار نگاہوں کو رخ زینا کا ظاہری دیدار نہ حاصل ہو سکا۔ (الدعوة الاصلاحیہ ص ۱۹۲ شیخ محمد بن علوی مالکی)

کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس عاشق زار کے قلب نازک پر کتنا بڑا صدمہ پہنچا ہوگا جو وصال حبیب کی تمنا میں زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑی بے قراری سے گزار رہا

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ہو اور ایک پل کے لئے بھی اسے جمال حبیب کا جلوہ زیبا نصیب نہ ہوا ہو پھر اسی عالم میں اسے اس کے حبیب کی رحلت کی غمناک خبر پہنچا دی گئی ہو؟ ہے کوئی جو ماں باپ کی خدمت گزاری میں ایسی مبارک تمناؤں کو قربان کر دے؟ سرکار کے شرف صحبت بلکہ شرف زیارت سے مشرف ہونا اس کے امکان میں ہو اور پھر بھی شب و روز ماں کی رضا جوئی و ولد ہی میں لگا رہے؟ یہ شان ہے سید التارکین، افضل التابعین حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنہوں نے اپنی بے سہارا ماں کی خدمت و رضا میں یہ سب کچھ قربان کر دیا۔ مگر ان کی یہ قربانی رایگاں نہ گئی بلکہ اس صلہ میں خدائے ذوالجلال نے انہیں ایسے فضل خاص سے نوازا کہ اس پر دنیا جتنا بھی رشک کرے کم ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔

ان خیر التابعین رجل یقال له
اولیس وله والدہ وکان بہ بیاض
فبروہ فلیستغفر لکم۔
(مشکوٰۃ ص ۵۸۲، بحوالہ مسلم ج ۲ ص ۳۱۱)

تابعین میں سب سے افضل و بزرگ وہ
شخص ہے جس کا نام اولیس ہے اس کی
ایک ماں ہے۔ اس سے گزارش کرو کہ
وہ تمہارے لئے دعائے مغفرت کرے۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایک دوسرے بیان میں یہ اضافہ بھی

اس کے بدن میں سفید داغ تھا جو درہم
بھر جگہ کے سوا سب ٹھیک ہو گیا۔ وہ اپنی
ماں کا اطاعت شعار و خدمت گزار ہے
اگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم کھالے تو
خدائے کریم اسے ضرور پورا فرمائے گا۔

کان بہ برص فبراً منہ الا
موضع درہم له والدۃ ہو بہا
بر لو اقسم علی اللہ لابرہ
(مسلم شریف ج ۱ ص ۳۱۱)

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اس بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک بیان یہ بھی ہے کہ ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میرا نام لے کر یاد فرمایا تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید حضور مجھے کہیں بھیجیں گے مگر آپ نے فرمایا: اے عمر! رضی اللہ عنہ میری امت میں اویس نام کا ایک شخص ہے جب اس سے تیری ملاقات ہو تو اسے میرا سلام کہو اور اس سے اپنے لئے دعا کراؤ کیونکہ وہ پروردگار عالم کے نزدیک کریم و محبوب ہے اگر خدائے تعالیٰ پر کوئی قسم کھالے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ڈھونڈا مگر ملاقات نہ ہو سکی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تلاش کیا پھر انہیں تلاش کرتا رہا۔ یہاں تک کہ ملاقات ہوئی میں نے کہا سرکار نے آپ کو سلام کہا ہے تو انہوں نے جواب دیا:

علی رسول اللہ السلام عليك يا امير المؤمنين۔

(اشعة اللمعات بحوالہ جمع الجوامع للسيوطی)

تذکرۃ الاولیاء میں ہے کہ سرکار ابد قرار علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کے لئے اپنا پیرا بن بھی رکھ چھوڑا تھا جسے حضرت عمر فاروق و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک مدت کے بعد ان کا پتہ لگا کر انہیں عطا کیا۔ (سچی حکایات ج ۳ ص ۱۳۱۳)

سبحان اللہ! عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں کی خدمت نے ایک گننام شخص کو اتنا عظیم بنا دیا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے پیرا بن و سلام سے نوازا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کے حکم سے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دس سال سے اس کی تلاش میں ہیں۔ خیر الرسل اس کو خیر التابعین کا لقب دے کر اپنی امت کے لئے دعا کا پیغام بھیج رہے ہیں اور خدا تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا رہا ہے۔ کیا خوب کہا شاعر مشرق نے

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو
یہ بیضا لئے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں
(حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ کے تفصیلی حالات کے لئے ہماری کتاب
الباقیات الصالحات المعروف مقالات وخطبات کا مطالعہ فرمائیں)

مجاہدین و شہداء کی مائیں

☆ کتب تواریخ میں لکھا ہے سیف من سیوف اللہ حضرت خالد بن ولید
رضی اللہ عنہ کی بائیس جمادی الاخریٰ اکیس ہجری کو مقام حمص پہ وفات ہوئی اور
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے جنازہ میں شریک ہوئے ایک دن حضرت
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک ضعیف و ناتواں عورت کو دیکھا اور پوچھا یہ بڑھیا
کون ہے؟ عرض کیا گیا یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ہے جو
اپنے بیٹے کے غم میں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ آپ نے ان کو تسلی دیتے
ہوئے فرمایا: خوش نصیب ہے وہ ماں جس کے بطن سے خالد جیسا فرزند پیدا ہوا اور
فرمایا: نعمت کی قدر و منزلت کا پتہ نعمت چھن جانے کے بعد ہی چلتا ہے۔

☆ حضرت عفراء صحابیہ رضی اللہ عنہا جو صحابیات میں ایک امتیازی شان
رکھتی ہیں اور وہ یہ کہ ان کا نکاح پہلے تو حارث سے ہوا جس سے ان کے تین بیٹے
تھے (عوف معوذ اور معاذ) پھر ان کا نکاح بنی لیل سے ہوا جس سے ان کے چار
بیٹے تھے۔ (ایاس، عاقل، خال اور عامر) یہ ساتوں کے ساتوں بیٹے غزوہ بدر میں
شریک ہوئے اور یہ حضرت عفراء رضی اللہ عنہ کی خصوصی شان ہے کیونکہ ان کے
علاوہ کسی اور صحابیہ کے سات بیٹے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ (سیرۃ المصطفیٰ ج ۲
ص ۱۳۳) ان کے بیٹوں میں سے حضرت معاذ و معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ایمان
افروز واقعہ تو صحیح بخاری میں موجود ہے کہ ابو جہل کو فتانی النار کرنے میں انہوں نے

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

کتنا عظیم کردار ادا کیا۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ کا اشعار میں ترجمہ کر کے حفیظ جالندھری نے انہی کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کیا ہے کہ انہوں نے عین حالت جنگ میں حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا: اے چچا ابو جہل کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا:

حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ

بچوں نے بڑی جرأت سے جواب دیا

وہ دستہ کب تک روکے گا عزرائیل کا رستہ

حضرت عبدالرحمن نے فرمایا: تمہیں ابو جہل سے کام کیا ہے؟ تو ان دونوں

نے بیک زبان ہو کر کہا۔

قسم کھائی ہے مرجائیں گے یا ماریں گے ناری کو

سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو

یہ غیرت مند بچے اسی بابرکت خاتون حضرت عفرات رضی اللہ عنہا کے

صاحبزادے ہیں۔

☆ حضرت خنہ رضی اللہ عنہا کے چار بیٹے تھے چاروں کے ہاتھوں میں

تلواریں تھما دیں اور فرمایا: جاؤ اسلام کی عظمت پہ نثار ہو جاؤ اور یاد رکھو اگر تم میں

سے کسی کی پیٹھ پہ زخم لگا تو میں شرم سے مر جاؤں گی۔ میری دعائیں بیکار ثابت

ہوں گی تمہارے سینے چھلنی ہوں تو ہوں پیٹھ پہ نشان نہ لگے۔ میں تمہیں غیرت مند

شہید دیکھنا چاہتی ہوں بچے میدان میں جاتے ہیں بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں

جام شہادت نوش فرماتے ہیں جسموں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں ماں میدان جہاد

میں جاتی ہے بہت مطمئن نظر آتی ہے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر بجا

لاتی ہے الحمد للہ کا ورد زباں پہ سجاتی ہے اور لوگوں کو فرماتی ہے کہ آؤ مجھے مبارک دو

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

کیونکہ میں چار شہیدوں کی ماں بنی بیٹھی ہوں۔ مجھے ناز ہے کہ میرے بیٹے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو گئے ہیں۔ (ماں کی عظمت خلاصہ)

۔ جو ہے خوشبو تری اے ماما وہ مل نہیں سکتی

کہیں ڈھونڈے سے بھی دنیا کی مصنوعی وفاؤں میں

فرشتوں کا تقدس ہے تری پاکیزگی میں بھی

ہے پوشیدہ کوئی چاہت تری ان سب اداؤں میں

کوئی مشکل پڑے جب بھی مجھے انجم تو پھرا بھرے

وہی اک مہرباں چہرہ مری ساری اداؤں میں

اولیاء و صلحاء کی مائیں

حضرت سلطان العارفين بايزيد بسطامي عليه الرحمة نے بچپن میں اپنے استاد سے قرآن پاک کی ایک آیت سنی۔ ان اشکر لی ولو الديق۔ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا۔ والدہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں امی جان ایک شخص دو گھروں کا نظام کیسے چلا سکتا ہے یا تو آپ مجھے اللہ کے حوالے کر دیں اور اپنا حق خدمت معاف کر دیں یا پھر اللہ تعالیٰ سے اس کا حق معاف کروادیں اور اپنی خدمت لیتی رہیں۔ والدہ ماجدہ نے فرمایا: میں اپنا حق تمہیں معاف کرتی ہوں اور تجھے اللہ کے دین کے لئے وقف کرتی ہوں چنانچہ حضرت بايزيد تقريباً تیس سال مختلف مقامات پہ جا کر دین سیکھتے رہے اور بزرگان دین سے فیوض و برکات حاصل کرتے رہے۔

تیس سال کے بعد خیال آیا کہ والدہ کی خدمت میں حاضری دوں چنانچہ گھر آئے تو دروازہ بند تھا والدہ وضو فرما رہی تھیں اور یہ دعا کر رہی تھیں۔ اے اللہ! میرے مسافر بیٹے کی خبر ہو تیرے مقبول بندے اس سے خوش رہیں حضرت بايزيد

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

یہ سن کر بہت روئے دروازہ کھٹکھٹایا والدہ نے پوچھا کون؟ عرض کیا! آپ کا مسافر بیٹا بایزید فرمایا: تیری جدائی میں رو رو کر آنکھیں خراب ہو گئیں ہیں، کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے بیٹا تو اتنی دیر کہاں رہا؟ حضرت بایزید خود فرمایا کرتے تھے مجھے تو خبر ہی بعد میں ہوئی جو نعمت میں مجاہدات میں تلاش کرتا رہا وہ تو ماں کی خدمت و رضا مندی میں ہے۔

☆ زُہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ الرحمۃ کی والدہ ماجدہ بچپن میں آپ کو نماز کی عادت ڈالنے کے لئے فرماتیں اگر تم نماز پڑھو گے تو تمہیں شکر ملے گی۔ چنانچہ آپ مصلیٰ کے نیچے شکر کی پڑیا بنا کر رکھ دیتیں۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ شکر نکال لیتے، ایک دن اتفاقاً والدہ کو شکر رکھنی یاد نہ رہی بابا صاحب نے نماز پڑھنا شروع کی تو ماں نے رب کی بارگاہ میں دعا شروع کر دی کہ اے اللہ! اگر آج اس کو شکر نہ ملی تو اس کا اعتماد اٹھ جائے گا لہذا میری لاج رکھ لینا۔ نماز ختم ہوئی تو شکر کی پڑیا موجود تھی۔ والدہ سے عرض کیا پہلے والی شکر سے آج کی شکر کا ذائقہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ چنانچہ آپ کا نام ہی گنج شکر پڑ گیا۔

☆ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمۃ کی والدہ ماجدہ آپ کی تعلیم مکمل ہونے سے پہلے ہی بیمار ہو گئیں اور اتنی شدید کہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ حضرت سلطان المشائخ کو معلوم ہوا تو استاذ محترم سے چھٹی لے کر جمادی الاخریٰ کا چاند دیکھتے ہی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ والدہ نے بیٹے کو دیکھا تو بے اختیار منہ سے نکل گیا۔ بیٹا! آئندہ ماہ کس کی زیارت و سلام کو آؤ گے اور کس کی دعائیں لو گے؟ محبوب الہی بھی بے تاب ہو گئے تاہم والدہ نے تسلی دے کر سلا دیا۔ صبح پھر جب خدمت میں حاضر ہوئے تو ماں نے بیٹے کا

[Click For More Books](#)

ہاتھ پکڑا اور آسمان کی طرف منہ کر کے عرض کیا! الہی یہ یتیم اب تیرے ہی سپرد ہے۔ بس یہ آخری الفاظ تھے اور اس کے بعد اپنی پیاری جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔

☆ حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ نے دوسرے مشائخ کی طرح بہت زیادہ ریاضتیں تو نہیں کیں مگر اس نعمتِ عظمیٰ کو پانے کی انتظار میں بڑے بے قرار و بے تاب رہتے ہیں۔ فرماتے ہیں میری والدہ ماجدہ میری بے قراری کو سمجھ گئیں اور بہت ہی شکستہ دل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ”یا اللہ تو میرے بیٹے کی مراد پوری کر یا مجھے زندہ نہ رکھ کیونکہ میں اس کی بے قراری برداشت نہیں کر سکتی“ فرماتے ہیں والدہ کی دعاؤں سے ہی اللہ تعالیٰ نے تمام رکاوٹیں دور کر دیں۔ تمام مقام طے کرادیئے اور یہ نعمت نصیب ہو گئی۔ (ماں کی عظمت)

دُکھ سہتی ہے خوش رہتی ہے پل پل یہ دعائیں دیتی ہے
رورو کر پچھڑے بیٹوں کو اشکوں سے صدائیں دیتی ہے
حالات کے تپتے صحرا میں ٹھنڈی سی ہوائیں دیتی ہے
سینے سے لگا کر بچوں کو تن من کی غذائیں دیتی ہے

کسی نے استاد ابوالحق سے بیان کیا کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ گویا آپ کی داڑھی جو اہر و یا قوت سے مرصع ہے انہوں نے فرمایا: تو نے سچ کہا ہے کیونکہ رات کو میں نے اپنی ماں کے قدم چومے تھے۔ (زہد الجالس ج ۱ ص ۲۰۰)

”ماں“ عظمت کا نشان

ایک ماں نے اپنے بیٹے کو آزمانے کے لئے چند مرتبہ ایک بات پوچھی تو بیٹا تیسری مرتبہ ہی غصے میں آ گیا کہ کیا سر کھپا رکھا ہے کہہ تو دیا ہے یہ بات ایسے ہے۔ ماں اندر گئی اور ایک کاپی لے آئی۔ بیٹے کے آگے رکھی تو اس میں بیٹے کے بچپن کا

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ماں تسکین جاں ﴿۱۱۲﴾

ایک واقعہ لکھا ہوا تھا اور اس میں اس نے سو بار اپنی ماں سے ایک ہی سوال کیا اور ماں نے ہر بار بیٹے کا منہ چوم کر اس کو محبت سے جواب دیا ہوا تھا۔ ماں نے کہا: میں نے آج کے دن کے لئے ہی یہ کاپی سنبھال کر رکھی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ماں گوشت کا لوتھڑا ہی کیوں نہ ہو اولاد کے لئے پھر بھی سراپائے رحمت ہے اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے وفادار بیٹا جب سارا دن کاروبار کر کے تھک کر رات کو گھر آتا ہے تو ماں کا چہرہ دیکھ کر ہی اس کی ساری تھکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لا تقل لهما اف۔ کہ اگر بڑھاپے کی وجہ سے والدین کمزور ہو جائیں۔ اعضاء میں طاقت نہ رہے۔ ذہن بچوں کی طرح ہو جائے تو جس طرح تو بچہ تھا مگر وہ تیرا ہر ارمان پورا کرتے رہے اگر آج وہ تیری حالت پہ آگئے ہیں تو تو بھی ان کو اپنے آپ پہ بوجھ نہ سمجھ اور اگر کبھی تیری طبیعت کیخلاف کوئی حرکت ان سے سرزد ہو جائے تو ان کو اف تک بھی نہ کہہ۔ بلکہ نرم لب و لہجہ میں ان سے بات کر اور ان کی توقیر و تکریم کا پورا خیال رکھ۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں اگر ان کے کپڑے پہ گندگی اور پیشاب و پاخانہ وغیرہ لگ جائے تو اس موقع پر بھی اف نہ کہہ بلکہ سعادت سمجھ کر دھو دے جس طرح وہ تیری غلاظت کو دھوتے رہے۔ (در منثور ج ۴ ص ۱۷۱) کیونکہ وہ تیرے تمام رشتوں کا مرکز ہیں یہ نہ ہوتے تو نہ تجھے وجود ملتا اور نہ دنیا میں کسی سے کوئی تیرا رشتہ اور تعلق ہوتا۔

دیکھو نماز جو کہ خاص الخاص اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس میں بھی والدین کے لئے دعا کی جا رہی ہے پہلے روحانی اور ایمانی رشتوں کے مرکز و منبع آقا علیہ السلام پہ درود سلام بھیجا جا رہا ہے اور پھر دنیوی رشتوں کے مرکز والدین کے لئے باادب بیٹھ کر سر کو جھکا کر دعا کی جا رہی ہے۔ ربنا اغفر لنی والوالدی۔ غور کرو! والدین کو زکوٰۃ کیوں نہیں دی جاسکتی؟ اس لئے کہ زکوٰۃ مال کا میل کچیل ہوتی

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ہے اور والدین تو تجھے خون جگر سے پالیں اور تو ان کو میل کچیل کھلائے یہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں۔

تھ اٹھا اولاد دی خاطر ماواں کرن دعاواں

مانواں ہندیاں نور محمد جنت والیاں چھانواں

”ماں“ محبت کا جہاں

اہل محبت نے ایک عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ماں سے کئی گنا زیادہ محبت فرماتا ہے لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت سے نکل جانے کا حکم دیا۔ (قلنا اهبطوا منها جیبعا) لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ماں تو اپنے بیٹے کو کبھی نہیں کہتی کہ جا میرے گھر سے نکل جا۔ یعنی اگر آدم علیہ السلام کی بھی ماں ہوتی تو کبھی نہ کہتی کہ یہاں سے نکل جا اور اگر نکل بھی گئے تھے تو سیدھے ماں کے قدموں میں آجانے کیونکہ جنت سے نکلے تھے تو جنت ہی میں آ گئے۔ (الجنة تحت اقدام الامہات)

دوسری بات یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کو مارتا ہے تو مار کھانے والا مارنے والے سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ماں جب بچے کو مارتی ہے تو بچہ پھر بھی ماں ہی کی طرف دوڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ ہو کر اتنا تو وہ بھی سمجھتا ہے کہ اس سے زیادہ محبت کرنے والی اور کون سی ہستی ہو سکتی ہے؟ اس دور میں کئی بد نصیب ایسے ہیں کہ جو اپنے والدین پر ہاتھ اٹھانے سے بھی باز نہیں آتے بلکہ اخبارات میں کئی دفعہ پڑھتے ہیں کہ والدین کو بیٹے نے قتل کر دیا۔ (العیاذ باللہ تعالیٰ) ماں باپ کو گھروں میں ملازم سے بھی کم درجہ دیا جاتا ہے ان کو ستایا جاتا ہے اور وہی گھر جو کبھی ان کا تھا اس گھر کے تمام معاملات سے ان کو لا تعلق اور بے

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

دخل سمجھا جاتا ہے۔

سیالکوٹ کے مشہور پنجابی خطیب حضرت مولانا محمد یوسف سیالکوٹی علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ وعظ کرنے کے لیے جانے ہیں تو اشتہارات اور محافل میں ہمیں بڑے بڑے القابات سے نوازا جاتا ہے کوئی خطیب پاکستان کہتا ہے تو کوئی مقرر شعلہ بیان کا نعرہ بلند کرتا ہے، کوئی شیخ القرآن لکھتا ہے تو کوئی استاذ العلماء کے لقب سے پکارتا ہے لیکن مجھے ان القابات کے ملنے پر اتنی خوش نہیں ہوتی جتنی کہ اس وقت خوشی ہوتی ہے جب میں گھر آتا ہوں تو میری ماں مجھے پیار سے کہتی ہے ”جو سب اُپتر آ گیا ایں“۔

ماں تو ہے اللہ کی رحمت
اس کی خفگی اللہ کی لعنت
ماں کا ہر فرمان ضروری
تعمیل قرآن ضروری

”ہے ماں باپ اپنے کا نافرمان جو
کبھی بخشش نہ پائے گا شیطان وہ“

”ماں“ آرام جاں

کہتے ہیں کسی بستی میں ایک پاکباز اور صالحہ خاتون رہتی تھی، دین و دنیا کی دولت وافر تھی اچانک اس کا خاوند فوت ہو گیا ایک ہی بیٹا تھا۔ عورت نے اپنے بچے کی اچھے طریقے سے تربیت کی۔ لڑکا بڑا ہو کر غریبوں کا خیر خواہ بنا، صدقہ و خیرات کرتا، بستی میں کوئی بھی اس سے تنگ نہ تھا ہر کوئی اس کے قدموں کے نیچے آنکھیں فرش راہ کرتا۔ یہ لڑکا دیہات سے شہر میں آیا، بے حیائی کے کچھ نظارے دیکھے بد کردار لوگوں سے دوستی ہو گئی، راہ حق سے بھٹک گیا، ماں اپنے بیٹے کے لئے ہر وقت غائبانہ دعا کرتی مگر لڑکا ایک بدکارہ عورت پہ فریفتہ ہو گیا لڑکا جب بھی گھر آتا اپنے باپ کی خون پسینی کی کمائی وافر مقدار میں لے جا کر اس بدکارہ کے

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

قدموں پہ لٹا دیتا آخر کار گھر خالی ہو گیا۔ دوسروں کی مدد کرنے والے گھر کی مالکہ (اس کی ماں) اب لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کر کے اپنا پیٹ پالنے لگی۔ لڑکا جب گھر آتا ماں اس کو وہ مزدوری کر کے کمائے ہوئے پیسے دینے سے بھی دریغ نہ کرتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ ایک مرتبہ جب کافی عرصہ ماں کو ملنے نہ آیا تو ماں اپنے بیٹے کی جدائی میں دیوانی سی ہو گئی۔ ذرا دروازہ ہلتا وہ سمجھتی میرا بیٹا آ گیا ہے بیساختہ دوڑ پڑتی پھر مایوس ہو کر واپس آ جاتی، رو رو کر بینائی ختم ہو گئی۔ ادھر جب لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا تو بدکارہ عورت نے اس سے جان چھڑانے کے لئے ایسی شرط لگا دی کہ جس کو سن کر ایک ماں کا تابعدار بچہ تو پانی پانی ہو جاتا مگر وہ اس بدکارہ کی محبت میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے یہ شرط بھی منظور کر لی۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر سینے کون سی شرط تھی۔ شرط یہ تھی کہ اس بدکارہ نے کہا: اپنی ماں کا دل نکال کے لاتب تیری خواہش پوری کروں گی وہ سمجھی کہ شاید یہ ایسا نہ کرے گا لیکن وہ جوان جو ایک وقت میں فرشتہ سیرت تھا وہ آج خواہش نفس کی خاطر شیطان بن چکا تھا۔ خنجر لیا سیدھا اپنے گھر گیا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ سر منہ چوما گلے سے لگایا۔ اس بد بخت نے خنجر نکالا اور ماں کا سینہ چیر کر دل نکال کر لے گیا بدکارہ کے پاس پہنچا تو اس نے بھی یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ جب تو اپنی ماں کا نہیں بنا تو میرا کیا بنے گا؟ جادو ہو جا! نو جوان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا۔

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے
واپس ہولیا، چکر آیا تو زمین پہ گر گیا ادھر ماں کے دل سے آواز آئی بسم اللہ
میرے لعل کو چوٹ تو نہیں لگی۔ بیٹے کی سنگدلی بھی دیکھئے اور ماں کی رحم دلی بھی
ملاحظہ کیجئے۔

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

کٹھاربت نے رحم تے کرم کر کے اپنے ہتھیں بنایا اے ماں دادل
جمع کر خلوص ستاریاں دا ہیرے وانگ چمکایا اے ماں دادل
فیر پیار دی مٹھی جہی اگ اُتے ہولی ہولی پکایا اے ماں دادل
آب کوثر دے نال فیر دھو کے تے سینے وچ سجایا اے ماں دادل
پانی رحمت ربی دا پا کے تے مٹی ماں دے جسم دی گوئی گئی اے
اصغر ہجر فراق دی سوئی لے کے ماں دے پیار دی لڑی پروئی گئی اے

”ماں“ عطیہِ رحمت

پہلے گزر چکا کہ ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم
الرضوان کے ساتھ اپنی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر پہ تشریف لے گئے
اور بے اختیار آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یہ منظر دیکھ کر صحابہ
کرام علیہم الرضوان بھی بے تاب ہو کر رونے لگے چنانچہ روایات میں ہے۔

فزار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبکی و ابکی من
حولہ۔

حضور علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ حاضری دی خود بھی
روئے اور دوسروں کو بھی رلایا۔

اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب
آپ کو قیدی بنا کر مصر کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو راستے میں آپ کی والدہ ماجدہ
کی قبر آئی۔ فلما بلغ یوسف علیہ السلام علی قبر امہ فبکی
جب یوسف علیہ السلام اپنی امی جان کی قبر پر پہنچے تو بہت روئے۔

فسمع النداء من قبر امہ یا قرة عینی۔

قبر سے آواز آئی اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک (کیا آواز آئی پنجابی

[Click For More Books](#)

شاعر کی زبان میں پڑھیے۔

ہے باہجوں مشکلاں حل نہ ہوں نکتے حل کرے گا مشکل کشا بچہ
تیرے دادے خلیل نون ویریاں نے بلدی خچہ اندر دتا پا بچہ
رب صبر دا اجر عطا کیتا دتی اگ گلزار بنا بچہ
اسماعیل دی گردن تے چھری چلی رب اوہنوں وی لیا بچا بچہ
توں وی حضرت خلیل دا پوتا این من رب وی جو یں رضا بچہ
کی ہو یا جے بھائیاں نے ظلم کیتا مہرباں اے آپ خدا بچہ
اک روز توں مصر دا شاہ بنسیں جا ایہوای میری دعا بچہ
تینوں جہاں بھرانواں نے وچیا اے بن کے اون گے اک دن گدا بچہ

”ماں“ سایہ یزداں

مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مصر کی حکومت عطا فرمائی اور آپ نے اپنے بھائیوں سے فرمایا: واتونی باہلکم اجبعین۔ اب جب مصر میں آؤ تو اپنے پورے خاندان کو ساتھ لے کر آنا۔ اور جب اگلی مرتبہ پورا خاندان آیا تو قرآن فرماتا ہے: ورفع ابویہ علی العرش۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پہ بٹھایا حالانکہ آپ کی حقیقی والدہ نہ تھیں بلکہ سوتیلی ماں (لیا) جو آپ کی خالہ بھی لگتی تھیں (حضور علیہ السلام نے خالہ کو ماں کا درجہ دیا ہے اور فرمایا ہے: الخالہ بمنزلۃ الام خالہ ماں ہی کی جگہ ہے۔

تو اللہ کے پیارے نبی یوسف علیہ السلام نے دنیا کو بتا دیا کہ سوتیلی ماں بھی تخت پہ بٹھانے کے قابل ہے تو حقیقی ماں کی عظمت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور جب ماں کا احترام یہ ہے تو ماں کو یہ مقام دینے والے امام الانبیاء کی شان کا کون

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اندازہ کر سکتا ہے۔

دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ
میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد

”ماں“ رحمت کا سائباں

علماء فرماتے ہیں کہ فرض کرو اگر اللہ تعالیٰ عزرائیل علیہ السلام کو دنیا میں یہ فرما کر بھیجے کہ تمام جہان کی ماؤں سے کہو کہ تمہیں اختیار ہے یا اپنے بیٹے میرے حوالے کر دو یا اپنی جانیں دینے پر تیار ہو جاؤ تو کوئی ماں بھی اپنے بیٹے کی روح قبض نہ کرنے دے بلکہ ہر ماں یہی کہے: اپنے بچوں کی خاطر ہم خود مرنے کو تیار ہیں اور صرف انسانوں کی مائیں ہی نہیں بلکہ جانوروں کی ماؤں کا بھی یہی حال ہو کیونکہ ماں آخر ماں ہے اگرچہ جانور کی ہی کیوں نہ ہو۔ مشہور واقعہ ہے کہ ہرنی نے اس وعدہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کی سفارش سے رہائی طلب کی کہ میں بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی ہوں۔ حالانکہ واپس آنے میں جان جاسکتی تھی مگر پھر بھی آگئی تاکہ بچے تو دودھ پلانے سے بچ جائیں میں چاہے زندہ رہوں یا نہ رہوں۔

اسی طرح ایک شخص نے چڑیا کے بچے پکڑ لیے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آیا عرض کیا جب میں نے بچوں کو چادر سے باہر نکالا تو ان کی ماں دیوانہ وار بچوں پہ گر پڑی پھر میں نے سب کو پکڑ لیا۔ سرکار نے فرمایا: ان کو جہاں سے پکڑا ہے وہیں پہ چھوڑ آؤ۔ تو جب جانور کے دل میں اولاد کی اس قدر محبت ہے تو انسان جو بنا ہی انس (محبت) سے ہے اس کی محبت کا خود ہی اندازہ کر لو۔ تو جب ماں کی محبت کا یہ حال ہے تو پھر ہمارے آقا علیہ السلام کو اپنی امت کے ساتھ کس قدر پیار ہوگا؟

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>



نوع انسان کو اللہ سے ملانے والے
اہل دل بھول نہیں سکتے ہیں احسان تیرے
کیوں نہ دم تیرا بھریں اہل ولا اہل وفا
کشتی زیست ہے طوفان میں بچالے اس کو
خاک پا کو تری اے نورِ خدا کے حامل
ہم غلاموں پہ بھی ہو جائے ترا لطف و کرم
لو لگائے ہوئے بیٹھے ہیں گزرگاہوں میں
اپنی اُمت پہ بھی لُذ نظر ہو جائے
بگڑی تقدیر زمانے کی بنانے والے

(صابر القادری نسیم بستوی)

”ماں“ چارہ بے چارگاں

سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے تشریف لے گئے اور اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر اپنی امت میں چھوڑ گئے اور جب واپس تشریف لائے تو اُمت گو سالہ پرستی کے شرک میں مبتلا ہو چکی تھی آپ بہت غضبناک ہوئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ کر اپنے غصے کا اظہار فرمانے لگے اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی ماں کے حوالے سے ہی مخاطب کیا اگرچہ دونوں حقیقی بھائی تھے اور ہارون علیہ السلام یوں بھی کہہ سکتے تھے اے موسیٰ یا اے میرے بھائی یا اے میرے باپ جائے لیکن یوں کہا:

یا ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

اے میری ماں کے بیٹے! (میری داڑھی اور سر کے بالوں کو نہ پکڑ
لاتاخذ بلحیتی ولا برأسی) بے شک قوم نے مجھے کمزور جانا اور
قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتی۔

کیونکہ ماں کے لفظ میں محبت کا ایسا جذبہ ہے کہ جو دنیا کے کسی اور لفظ میں
نہیں۔ اس لفظ سے محبت و تسکین کا دریا جوش مارنے لگتا ہے اور غصہ ختم ہو جاتا
ہے۔ جس طرح کہ رسول پاک علیہ السلام کا ذکر پاک سرچشمہ محبت ہے۔ کسی
مسلمان سے لڑائی میں کہہ دو اے میرے رسول کے اُمتی! پھر دیکھو کیا نظارہ ہوتا
ہے اس لیے اہل عرب لڑائی کے وقت درود شریف پڑھتے ہیں تو لڑائی ختم ہو جاتی
ہے ماں کے سینے سے بیٹے کو دودھ ملا ہے تو رسول کے سینے سے اُمت کو قرآن و
ایمان ملا ہے بلکہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی حضور علیہ السلام کا
حوالہ اکسیر کی حقیقت رکھتا ہے۔

شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا
امن میں نوح نبی کے ہے سفینے جیسا
سارے نبیوں کی انگوٹھی کا جو حلقہ سمجھیں
اس میں ہے نام محمد کا گنگننے جیسا
اس لیے بھیجتا رہتا ہوں میں درود ان پر
لطف آتا ہے مجھے شہدائے پینے جیسا

ماں دی شان

فرق ماں تے عورت دی شان وچہ اے
عام عورتاں چوں ماں دی شان این وکھ
ملیا ماں نوں جگ توں دل وکھرا
پائی شہد تو مٹھی زبان این وکھ
لاچ بغض عناد نہیں وچہ جس دے
ماں دی الفت دا اُوہ جہان این وکھ
دکھ ماں دی عظمت حدیث دس دی
دس دا ماں دی شان قرآن این وکھ
اللہ بچہ اے جدوں عطا کردا
مل دا عورت نوں ماں دا مقام این فیر
جنت فیر آوندی اُہدے پٹھ قدماں
میل دا عظمتاں بھریا ایہہ نام این فیر



دساں میں کیہہ عظمت تے شان ماں دی
جس دی شان رحمان بیان کردا
اُف تک وی کرو ناں ماں اُگے
تے نہ جھڑکو ایہ رب اعلان کر دا

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ماں دی فرمانبرداری توں فرض سمجھو
کملی والا محمد فرمان کر دا
بد نصیب، اُس توں ودھ کے ہور کوئی نہیں
اپنی ماں دا جو نہیں دھیان کر دا
ودھ کے باپ توں وی ماں دا ادب کرناں
عین فرض ایہہ ہندا اولاد دا اے
بڈھی ما دی خدمت چہ پتراں لئی
رکھیا اللہ نے درجہ جہاد دا اے



بچے واسطے ایس جہان اندر
ہر دُعا اے ماں دی دُعا توں گھٹ
ماں دی مامتا والی ہوا ٹھنڈی
ہے اوہ جنت دی کدوں ہوا توں گھٹ
جس دے چہرے نوں تکلناں عبادتاں تے
اُوہدی عظمت میں خانہ خدا توں گھٹ
خاک ماں دے پیراں نوں جو لگے
میں ایہہ کہناں، میں خاکِ شفا توں گھٹ
رب دی پوجا نال ما دائے ذکر اکثر
اس توں ودھ کیہہ عظمت عظیم ہونی
پیار، بار جو بچے نوں معاف کر دی
ماں ورگی نہیں کوئی کریم ہونی

[Click For More Books](#)



جیہدی روشنی اے کائنات اندر
اوہ اک پیار دی روشن قندیل اے ماں
جس توں بچیاں نوں منزل دا پتا ملدا
اوہ اک راہ اندر سنگ میل اے ماں
”تبدی بہ“ ماں دی مامتا اے
اُلفت واسطے اعلیٰ دلیل اے ماں
جس دی عظمت دے چرچے قرآن وچہ نہیں
آج اوہ گھر گھر پئی ہندی ذلیل اے ماں
ایس دوز دے بالان دا میرے مولا
چنگیاں لوکاں چہ اٹھن تے بیہن کر دے
یوسف بچے نیں بگڑے معاشرے دے
ادب ماں تے باپ دا رہن کر دے



مانواں لکھ جہان وچہ بنن بھاویں
اے پر اپنی ماں جئی ماں ای نہیں
جس وچہ چین قرار سکون ملن دا
ماں دی گود ورگی کوئی تھاں ای نہیں
جس نوں تکناں بندگی رب دی اے
اُوہدے پیار جئی گوہڑی کوئی چھاں ای نہیں
بچہ جدوں رووے ماں ماں کردا
بناں ماں دے اُوہ لیندا ناں ای نہیں

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

پتی سد جاں حشر میدان اندر
نانواں مانواں دے ناں تے بولنا ایں
رَب نے ماں دیاں عزتاں عظمتاں دا
عقدہ حشر میدان وچہ کھولنا ایں



روہرن واسطے موسیٰ کلیم تائیں
جدوں ماں دریا تے آؤندی اے
ڈھاواں مار دی چیخ و پکار کردی
رو رو کے نیر وگاؤندی اے
جدوں ماں دی مامتا جوش مارے
چم چم کے سینے لگاؤندی اے
حد ماں دے صبر دی دیکھ ٹیٹ دی
فوراً رب ولوں وحی آؤندی اے
دُڈھ دایاں دے ہو گئے حرام اُس تے
دُڈھ تیرا ای پیوے گا لال تیرا
خوف کریں یوحانذہ رانی جئاں
تیری گود وچہ کھیڈے گا بال تیرا



ہر اک بچے نوں ماں دیاں خدمتاں دا
بدلہ رب کولوں شان دار مل دا
پیسے خرچ کے وی ماں دی مامتا دا
سودا کدی نہیں کسے بازار مل دا

[Click For More Books](#)

مل دا ہور اُوہ کسے وی جھولی چوں نہیں
جیہڑا ماں دی گود چوں پیار مل دا
پُرسکون اک ماں دی گود وچوں
بچے تائیں حقیقی قرار مل دا
دل نوں عجب اے کیف سرور آؤندا
جدوں منہ چوں ماں دا ناں نکلے
جد وی کسے نوں کوئی تکلیف آؤندی
فوراً منہ وچوں ہائے ماں نکلے



کناں ماں دی عظمت دا خیال رب نوں
کئی ماں دی شان و دہائی رب نے
قسم رب دی ماں دے وچہ قدماں
رکھ دتی اے ساری خدائی رب نے
دیکھوں پاک قرآن دے وچہ تھاں تھاں
ماں دی شان دی دتی دہائی رب نے
جنت ماں دیاں قدماں دے پیٹھ رکھ کے
شان کر دتی ہور سوائی رب نے
خدمت ماں دی یوستی کر کے
ماں کولوں دُعاواں تون لے ہر دم
ہو جاوے گی عظمت بلند تیری
چم دا ماں دے پیراں نوں رے ہر دم

(اسلام میں والدین کے حقوق از الحاج مولانا یوسف علی حمینہ)

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

کتابیات

عمدة القاری شرح بخاری	القرآن الکریم
اشعة اللمعات شرح مشکوٰۃ	بخاری شریف
مرآة شرح مشکوٰۃ	مسلم شریف
فتاویٰ رضویہ	ترمذی شریف
طبقات ابن سعد	ابوداؤد شریف
التبرک لعلی الاحمدی	نسائی شریف
الزواج	ابن ماجہ شریف
اصلاح المجتمع	مشکوٰۃ شریف
درة الناصحین فی الوعظ والارشاد	طبرانی شریف
نزہة المجالس	دارقطنی شریف
عیون المجالس	بیہقی شریف
ہجۃ الاسرار	الادب المفرد
جلاء الافہام	ابن حبان
الدعوة الاصلاحیة للشیخ محمد بن علوی المالکی	المستدرک للحاکم
لباب التاویل فی معانی التنزیل	مسند احمد بن حنبل
المعروف بالتفسیر الخازن	نوادراصول للحکیم الترمذی

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

تعلیمِ الاخلاق

کنز العمال

سیرۃ المصطفیٰ

شرح السنہ

آغوشِ محبت

سچی حکایات

ماں باپ کی خدمت

عظمت والدین

اسلام میں والدین کے حقوق

ماں باپ کے حقوق

ماں کی عظمت

عظیم ماں

رحمت کی برسات ماں

کامیاب ماں

صلائے عام ہے.....

جن دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں کی پیاری ماںیں اس دنیا سے پردہ فرما چکی ہیں اور وہ اپنے دل میں ان کی محبت کا جذبہ رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی ماں کی خدمت میں کوئی ایسا تحفہ پیش کریں کہ رہتی دنیا تک جس کا ثواب ماں کی روح کو پہنچتا رہے اور وہ تحفہ کئی لوگوں کی ہدایت کا سامان بھی بنے، وہ اس کتاب کو زیادہ سے زیادہ چھپوانے کا اہتمام کریں اس سے ان کی اپنی ماں کی روح بھی خوش ہوگی اور جتنے لوگ اس کتاب کو پڑھ کر اپنی ماں کی بے ادبی چھوڑ کر ماں کے تابعدار بن جائیں گے ان تمام ماؤں کی دعاؤں کے بھی مستحق قرار پائیں گے، کتاب کا مطالعہ کرنے والے اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتے کہ جتنی یہ کتاب پھیلے گی اتنی ہی ماں کی محبت کی خوشبو معاشرے میں پھیلے گی اور ہو سکتا ہے کسی کے خلوص کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی مقبولیت عطا فرمائے کہ ماں کی نافرمانی کے گندے جرائم ختم ہو جائیں اور ہر بچہ اپنی ماں کے قدم چومتا ہوا نظر آئے۔ اس کام کو آسان اور کم پیسوں میں سرانجام دینے کے لیے ہماری خدمات سے استفادہ فرمائیں اور ٹائٹیل، کمپوزنگ اور اشاعت کے دیگر اخراجات کے بھاری بھرم بوجھ سے نجات پائیں۔

اکبر بک سیلرز

زبیدہ سینٹر اردو بازار لاہور 0300-447737-024-7352022

[Click For More Books](#)

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

تاریخ
الامم

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>